

اسلام کا معاشی نظام

ڈاکٹر سارا احمد

مرکزی اجمنی خدمت القرآن لاهور

اسلام کا معاشی نظام

اوڑ اسلامی ریاست کا نظامِ محاصل



ڈاکٹر اسرا راحمد

مکتبہ خدام القرآن لاہور۔

5869501-03 فون: 36- کے ماؤں ناؤں لاہور،

تقدیم

یہ کتاب پھر راقم الحروف کی آج سے تین چار سال قبل کی دو تقریروں میں شامل ہے: اپنی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں کی گئی تھی اور دوسری ملکی محنت پنجاب کے زیر اعتمام مل مالکان اور مزدور لیڈروں کے ایک مشترک اجتماع میں کی گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی تقریروں میں نے حسب عادت ”رواروی“ میں کی تھیں اور میرا برگز خیال نہیں تھا کہ ان میں ایسی کوئی خاص یا اہم یادی بات ہے۔ لیکن ان دونوں کی پذیرائی میرے انداز سے سے بہت بڑھ کر ہوئی۔ خصوصاً فیصل آباد کی تقریر کے صدر تھے ڈاکٹر غلام رسول چودھری جو خود معاشرت میں پی، اپنے ڈی میں۔ ان کا تاثر تو ان کے رقم کردہ پیش لفظ میں قارئین کے سامنے آہنی جاتے گا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس اجتماع میں چودھری صاحب کے علاوہ مزید شخص درجن سے زائد معاشرت کے پی اپنے ڈی موجود تھے۔ بعد میں جائے کے اجتماع پر ان سب حضرات نے متفق طور پر فرمایا کہ آج پہلی بار اسلام کامعاشر نظام کچھ سمجھ دیں آیا ہے۔ میں نے اسے کچھ تو ان حضرات کے ہسپن ظن پر مجمل کیا اور کچھ اس پر کہ میری ہمت افزائی مقصود ہے۔

و اتفق ہے کہ میں نے اپنی ان تقریروں کو ہرگز قابل اشاعت نہیں سمجھا تھا۔ البتہ یہ صزو رخیال تھا کہ کبھی فرصت ملی تو نظر ثانی کے بعد اشاعت ہو سکتی ہے۔ لیکن محترم چوپڑی غلام رسول صاحب نے ان کی اس درجہ قدر افزائی فرمائی کہ دونوں تقریروں کو خود یہ پس منقل کر کے، اپنے ذاتی خرچ پر ایک کتابچے کی صورت میں غالباً دس ہزار کی تعداد میں طبع کرایا، اور رُفت تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ امین۔

ادھر کچھ عصر سے بعض احباب کا شدید تقاضا تھا کہ ہم اسے خود اپنے انتہا
میں بھی شائع کریں۔ اس صحن میں بھی چودہ ری صاحبؑ مزید کرم پر فرمایا کہ
کتابت شدہ کا پیار عنایت فرمادیں۔ چنانچہ یہ کتابچہ بالکل من و عن اُسی
صورت میں شائع ہو رہا ہے جس میں چودہ ری صاحبؑ طبع کرایا تھا۔ اس صحن میں
قارئین سے یہ معدودت کتنے بغیر نہیں رہ سکتا کہ دونوں تقریروں میں بعض مضامین
مکر آئے ہیں۔ اب یہ آپ کے ذوق پر مختصر ہے، چاہیں تو اسے 'قند مکر'
سے تعبیر فرمائیں، اور چاہیں تو بد مذاقی پر محمول کر لیں۔

یہ چونکہ زماعتیات کا باضابط طالبعلم ہوں نہ فقرہ اسلامی کا ماہر
— لہذا اس میں غلطیاں لازماً ہوں گی۔ جو حضرات اس صحن میں مجھے نہیں
فرمانے کی تکلیف گوارا فرمائیں ان کا پیشگی شکر یہ!

ان دو تقاریر کے علاوہ اس کتابچے میں موشنوع کی مناسبت سے دو
مختصر حیری مزید شامل کی جا رہی ہیں: ایک راقم کا ایک مختصر مقالہ جو
اُس نے "اسلام کا نظامِ محاصل" کے عنوان سے لائنز کاپ لائہ در کے
سالانہ جلاس میں پڑھا تھا۔ اس میں اسلام کے معاشی نظام کے
بارے میں بعض اصولی باتیں تو پھر مکر آگئی ہیں تاہم اہل فکر کے لئے
چند نئے نکات قابل غور موجود ہیں۔ اور دوسرے پاکستان کے
وظایمِ محاصل کے اس اہم ترین مسئلے پر کہ آیا یہاں کی اراضی گذشتی
ہیں یا خراجی پر و فیلسوفیع الشذہب صاحب کا ایک مختصر مراحلہ جو
میشاق، جنوری فروری اسلام میں شائع ہوا تھا، جس میں اس موشنوع
پر نہایت اہم حوالے موجود ہیں۔

خاکسار اسرار احمد عفی عنہ

پیش لفظ

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب دینی ملقطوں میں تو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس اعتبار سے ایک منفرد حیثیت کے مالک ہیں کہ آپ کی بنیادی تعلیم سائنس اور طب کی ہے مگر آپ کی نایاب خدمات دین اسلام کی تعلیم تبلیغ میں نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایسے وقت میں طب کے پیشہ کو ترک کر کے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور اوقات کو دین کے احیاء کے لیے وقت کیا جب اُمت قحط الرجال کا شکار تھی لہذا ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کے شعر ہے عیاں فتنہ تماں کے افانے سے پاساں مل گئے کبھے کو صنم خانے سے کے مصدق اُمت کی پاسبانی فرمائی۔

رقم احریوف جب یاچی سن کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے تعینات تھا اس وقت ڈاکٹر صاحب کو وقتاً فوقتاً زحمت دیتا رہا مگر ہر دفعہ ڈاکٹر صاحب نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت بخشنا اور نہ صرف کالج کے طلبہ اور اساتذہ کو اپنے یامان افسوس خطابات سے فرازا بلکہ کالج کی جزویت لیکپر شپ بھی قبول فرمائی۔ اس دوران ڈاکٹر صاحب کے دو اہم خطابات نجات کی راہ اور "علامہ اقبال اور ہم" رقم نے بڑے شوق سے طبع کروائے اور بہت پسند کیے گئے۔

بعد ازاں جب بھے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا والٹ چانسلر مقرر کیا گیا تو ڈاکٹر صاحب تکلیف فرمائکر وقتاً فوقتاً یونیورسٹی تشریف لے جاتے ہیں اور خطابات جمعہ کے علاوہ "سیرۃ النبی" اور "اُمت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل" جیسے اہم مخوضات پر یادگار خطاب فراستے اور ڈاکٹر صاحب نے زرعی یونیورسٹی کے سینیٹ اور سندھیکیت کی رکنیت بھی قبول فرمائی۔

رقم کا گمرا احساس یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ایشد نے جو قوت استدلال

انداز بیان اور قوتِ افہام عطا فرمائی ہے وہ اس نے آج تک کسی پروفیسر میں نہیں تھی۔ معاشیات کے میدان میں اسلام کی اصل تعلیمات کیا ہیں؟ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس پر کوئی واضح بات تماhal سامنے نہیں آئی تھی۔ ہماری کوشش زیادہ تر بھی رہی کہ Western Economics میں چند تبدیلیاں کر کے اسی کو اسلام کے مطابق ڈھالا جاتے، ہو مناسب نہیں ۔۔۔ چونکہ راقم بھی اسی شعبۂ علم سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اس کو اس مضمون سے خاص دلچسپی تھی۔ لہذا ہم نے اس معاملے میں بھی ڈاکٹر صاحب سے رجوع کیا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے نزدیک یونیورسٹی کے کلیئے معاشیات و دینی عمranیات کے تحت طلبہ دماہریں معاشیات سے "اسلام کا معاشی نظام" کے موضوع پر مفصل خطاب فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب کے اس خطاب سے جہاں اسلام کی تعلیمات کے نئے گوشے سامنے آتے دہاں یہ امر سب حاضرین کے لیے حیرت کا باعث ہوا کہ ڈاکٹر صاحب معاشیات کے ن تو کبھی طالب علم رہے تھے اور نہ ہی اس شعبہ سے کبھی متعلق۔ لیکن اپنی بصیرت باطنی کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑے میئیشت داں معلوم ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خطاب میں اسلام کی اصلی تعلیمات کو قرآن مجید کی حکم آیات کے حوالے سے پیش کیا اور عام معمول کے خلاف ڈاکٹر صاحب نے موجودہ نظاموں میں سے کسی پر اسلام کی مہر تصدیق ثبت کرنے کی بجائے اسلام کی اپنی تعلیمات کو پیش کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اشتراکی نظام کا آئینہ دلیل "مساوات" اور سریالیہ داریز نظام کا آئینہ دلیل "آزادی" ہے جبکہ اسلام مساوات اور آزادی دونوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جب کہ اس کا اصل نعرہ "عدل" ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسلام کے "روحانی" اور "قانونی" نظام کا جو فرق بیان فرمایا اس نے تو گویا اس موضوع پر جلد پتھری گیوں کو حل کر دیا۔

مجھے ایسہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ مقالہ تحقیق و تجسس کی نئی راہیں کھوئے گا اور ملکی میئیشت کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے مدد و معادن ثابت ہو گا۔

غلام رسول چودھری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
تَعَالٰی وَنَصَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهِ التَّعَالٰی

اسلام کا معاشی نظام

اَللّٰهُمَّ لِكَ تَحْمِدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَشَوَّكُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ النُّفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَعْمَدُهُ اللّٰهُ
فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيٌّ لَّهُ . وَنَشَهَدُ اَنَّ لَا إِلٰهَ اِلٰهُ اللّٰهُ
وَنَشَهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِيدًا
كَثِيرًا كَثِيرًا اَمَا بَعْدُ :

حضرات! اس دور کے بارے میں ایک بات عام طور پر کہی جاتی ہے جو کچھ زیادہ غلط بھی نہیں ہے کہ یہ معاشیات کا دور ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آج کا انسان بنیادی طور پر معاشی انسان بن کر رہ گیا ہے۔

اجتماعیاتِ انسانی میں بھی یقیناً معاشیات اور اقتصادیات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اور ہمارے ملک میں اسلام کی جانب جو قدم اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے ضمن میں فطری طور پر یہ سوال ذہنوں کو پریشان کر رہا ہے کہ اسلام کا اقتصادی نظام کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اسلامی اقتصادیات کا جو تصور پیش کیا ہے اس کی وجہ سے ایک تصور لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے کہ شاید اسلام کا اقتصادی نظام ہمارے موجودہ نظام میں زکوٰۃ اور عشر کے اضافے اور ذرا مزید ہمت کر کے سود کی لعنت کو ختم کر دینے کا نام ہے۔ گیا معیشت کا بنیادی ڈھانچہ یہی رہے گا اور بس اتنا ساتھیز و تبدل ہی مطلوب ہے اور اسی بنیاد پر کچھ لوگ بدینتی کے تحت اور کچھ مخالفت سے لوگوں کو بذلن کر رہے ہیں کہ اسلام کے پاس معاشی مسائل کا کوئی حقیقی، واقعی اور

تو شرحل موجود نہیں ہے۔ میں اسی لیے آج یہ جوڑات کر رہا ہوں کہ اسلام کے معاشری نظام یا قرآن مجید کی اقتصادی ہدایات کے بارے میں کچھ معرفضات پیش کروں۔ حضرات! میں اپنی اصل گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل دو معدیریں پیش کروں گا اور دو مقدرات۔

معدرتیں

الف : پہلی معدرت تو یہ کہ اصولاً اسلامی معاشریات پر گفتگو کرنے والے شخص کو جدید معاشریات اور اقتصادیات کا علم بھی براہ راست ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن و حدیث اور فقہ پر بھی اس کی نظر بہت گہری ہو۔ ورنہ کم از کم کسی ایک میدان کے اعتبار سے تو وہ یہ دعوے کر سکے کہ اس کے علم کی تحریکیں اس نے نکلنے کریں ہے۔ جبکہ بھی ان میں سے کسی چیز کا دعویٰ نہیں ... میں اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں۔ البتہ قرآن پر نکہ ہندگی لہذا تاب (تمام انسانوں کے لیے رہنمائی) ہے اور اس کا اصل موضوع ہی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق رہنمائی دینا ہے۔ لہذا اصولاً بھی یہ ممکن نہیں تھا اور فی الواقع بھی ایسا نہیں ہے کہ معاشریات جیسے اہم موضوع پر کوئی ہدایات اس میں نہ دی گئی ہوں۔ چنانچہ اس میں جہاں عبادات کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں اور ان کی تحریکیں بھی زیر بحث آئی ہیں، اسی طرح زندگی کے تمام گوشے اس میں موضوع بحث بننے ہیں اور اس ضمن میں احکامات بھی دارد ہوتے ہیں اور ان کی تحریکوں کا بیان بھی ہوا ہے چنانچہ معاشریات کے اعتبار سے بھی قرآن مجید میں ایک طرف تو کھلے کھلے احکام بیان کیے گئے ہیں دوسری طرف کچھ ایسے مقاصد اور بنیادی تحریکوں کی نشان دہی کی گئی ہے جن کا لحاظ ان احکام میں رکھا گیا ہے۔ لہذا میں ان دونوں پہلوؤں سے کوشش کروں گا کہ اپنے مطالعہ کا حاصل آپ حضرات کے سامنے لاؤں۔

ب : دوسری معدرت یہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنی بات نہ فلسفیانہ انداز میں پیش کرنے کی اہمیت رکھتا ہوں اور نہ میں اس کی کوشش ہی

کروں گا۔ میری کوشش یہ ہو گی کہ جن اصطلاحات کے لوگ عادی ہو چکے ہیں انہی کے حوالے سے بات کروں تاکہ بات فوراً سمجھ میں آجائے۔ مثلاً Capitalism (سرمایہ داری نظام) اور Socialism (اشتراکی نظام، معیشت) کی اصطلاحات ہائے ہاں معروف ہیں۔ لوگ اکثر و بیشتر ان اصطلاحات اور ان کے مفہوم سے بنیادی طور پر واقعہ ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ہی وہ نظام ہاتے معیشت ہیں جو اس وقت بالفعل دنیا میں قائم ہیں لیکن مجھے خوب اندیشہ ہے کہ اس طرح میں ممکن ہے کہ مجھ پر Over simplification کا الزام عاید کیا جاتے یا کوئی صاحب یہ سمجھیں کہ میں جدیہ اصطلاحات سے مروع ہوں لیکن اس کے باوجود میں بات پہنچانے کے لیے اس طریقہ کو اختیار کر رہا ہوں کیونکہ میرے نزدیک بات ذہنوں تک پہنچانے کے لیے یہی طریقہ سب سے عوثر ہے۔

دو مقدمات

اب میں چاہتا ہوں کہ دو مقدمات آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ میری گفتگو انہی پر مبنی ہے۔

پہلا مقدمہ : اس اصول پر مبنی ہے کہ دنیا کے ہر نظام کے دو پہلو ہوتے ہیں: ایک فکری اساس اور دوسرا علی ڈھانچہ۔ یہ دونوں پہلو باہم مریبو ہوتے ہیں اور کسی بھی نظام کو اس کی فکری اساس سے ہٹا کر موضوع گفتگو نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح اسلام کے بارے میں نظریاتی اساس اور بنیاد کا معاملہ انتہائی اہم ہے جس کو ہم اصطلاحاً ایمان سے تعبیر کرتے ہیں اسلام درحقیقت ایمان پر قائم ہے۔ اللہ پر یقین کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے۔ اس نے اس کائنات کو ایسی آجیل مُسمیٰ (ایک متعین وقت تک) کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ باقی رہنے والی پیغمبر نہیں ہے اور ہماری زندگی یہ دُنیوی زندگی

لے ہم اس بات کے معنی میں کہ ہمارے پاس ایک تسلیمان نظام معیشت ہے جو ان دونوں کے اچھے پہلوؤں کو اپنے اندر لے ہوئے ہے لیکن یہ چیز اس وقت تک صرف ایک دعویٰ کی حیثیت رکھتی ہے جب تک کسی معاشرے یا کسی ملک میں یہ نظام قائم کر کے نہ دکھایا جائے۔

ہی نہیں بلکہ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ انسان کا اصل مسئلہ اُس زندگی سے متعلق ہے، اس زندگی سے نہیں۔ گویا ہماری اعتقادی اساس اور نظریاتی بنیاد کے اعتبار سے نسبت و تناسب (Ratio and proportion) میں اس دینیوی زندگی کی توکوئی حیثیت ہی نہیں، یہ تو گویا نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ عارضی اور فانی ہے جب کہ وہ ابدی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ ہمارے إيمان کی دو بنیادیں ہیں جو قرآن حکیم کی ایک ہی آیت میں ان مختصر الفاظ میں سموئی ہوتی ہیں: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ الَّيْهُ رَاجِعُونَ﴾ کہ اللہ ہی ہمارا مبدأ بھی ہے اور معاد بھی۔ یعنی ہم اللہ کے پاس سے آتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ إيمان اگر واقعیت دل میں موجود ہو تو اس کا حاصل توبیہ ہے کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کی جاتے جیسے کوئی اجنبی ہر یا راہ چلنے والا مسافر یہ ایک راہ گزر کو اپنے راستے سے جو نجیبی ہو سکتی ہے اس دنیا اور اس کے متعلقات کے ساتھ اس سے نامد نجیبی از روئے إيمان درست نہیں ہے۔ اسلام کی اس بنیاد سے دو نتیجے اخذ کیجیے۔

① پہلا یہ کہ اگرچہ سو شلزم اور سایر داران نظام بظاہر تو ایک دوسرے کی کامل ضد ہیں کیونکہ نظام کے اعتبار سے ایک مشرق کی بات ہے تو دوسری مغرب کی، لیکن فکری بنیاد ان دونوں کی ایک ہی ہے یعنی مادہ پرستی۔ یہ مادیت (Materialism) ہی مفہی جس نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر جدی مادیت (Dialectical Materialism) کی شکل اختیار کر لی ہے۔ مادیت ہی بنیاد ہے مغربی جمورویت کی کہ جس کے ساتھ کیپیٹلیزم کا ضیمہ لگا ہوا ہے (Western democracy) اور اس مادیت ہی کی ایک زیادہ ترقی یافتہ شکل جدی مادیت ہے جس سے وہ دوسرانظام پھوٹا ہے جسے ہم سو شلزم اور کیونزم یا اس کے مختلف شیڈز (Shades) سے پہچانتے ہیں۔ ایک بات تو یہ پیش نظر رہے کہ اسلام کا معاملہ ان

لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شانے پکڑ کر از راہ شفقت فرمایا "کن فی الدنیا کا نک غریب او عابر سبیل" دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔

دونوں سے بنیادی طور پر جدا ہے جو

(۲) اور دوسری بات ذہن میں یہ رکھنا ہوگی کہ چونکہ اسلام کا نظام اپنے تفصیل ڈھانچے سیاست صرف اپنی بنیاد پر ہی قائم ہو سکتا ہے اور یہ کسی دوسرے نظام کی پیوند کاری قبول نہیں کرتا لہذا پہلے اس نظریاتی بنیاد کا استحکام ضروری ہے اس لیے کہ اسلام کھڑا ہو گا تو ایمان کی بنیاد پر۔

دوسرامقدمہ

گوایان کی رو سے اصل اہمیت معاد (آخرت) کی ہے، معاش کی نہیں۔ یہ دنیا اور اس کا ساز و سامان یہیں رہ جانے والا ہے اور انسانوں کے لیے شانوںی اہمیت کا حامل ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام کے پورے نظام فکر و عمل میں عدل و قسط اور انصاف کے قیام کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جو شانیں بیان ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ قائمًا بالقسط ہے (یعنی عدل و انصاف کو قائم کرنے والا)

پھر اسی کا حکم سوہہ النصار میں ان الفاظ مبارکہ میں وارد ہوا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْنُوا قَوَّامِينَ بِالْقُسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ (النَّاسَ ۱۳۵)

اے ایمان والو۔ عدل و انصاف کے قائم کرنے والے اور اللہ کے گواہ بنو۔

اور سورۃ الملائکہ میں یہی حکم عکسی ترتیب سے وارد ہوا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقُسْطِ (المائدہ ۸)

اے ایمان والو۔ اللہ کے یہے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہونے والے

اور عدل و انصاف کے گواہ بن جاؤ۔

ان سے اہم تر ہے یہ حقیقت کہ قرآن حکیم میں ایسی آیات بھی ہیں جن میں بالکل معین طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کتابوں کے نازل کرنے اور رسولوں کے بیصحیحے کا اصل مقصد اور اسلام کے پورے نظام کا مرکزی خیال ہی عدل و قسط کا نظام قائم کرنا ہے۔

کے الکفر ملة واحده۔ کفر کے کتنے بھی رنگ (Shades) ہوں کتنا ہی مختلف صورتیں ہوں وہ

وحقیقت ایک ہی شے ہے ایک ہی ملت ہے۔

مئے سورۃ آل عمران آیت ۸ -

گویا اسلام کے نزدیک یہ ایک اہم قدر ہے۔ فرمایا:
 لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْذَلْنَا مَعَهُنَا الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولُوا
 إِنَّا سُنُّ بِالْفِقْسِطِ۔ (الحمدید۔ آیت ۲۵) اہمیار و رسول کے بارے میں اس عالم
 قاعدہ کلیہ پر مستزاد ہے وہ ہدایت جو معین طور پر بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔
 ”تم (اسے محمدؐ) اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تھیں حکم ہوا
 ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشات کی پریوی نہ کرنا اور کہہ دو کہ جو
 کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے
 حکم ہوا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں۔“ (سورة الشوریٰ آیت ۱۵)
 جب سلمان ایران پر حملہ آور ہوئے تو ایرانیوں نے جملے کی وجہ دریافت
 کی تو فاتح ایران حضرت سعد ابن ابی وفاؓ نے ان الفاظ میں ان کو جواب دیا :
 ”ہم تو بھیجے گئے ہیں (خود نہیں آتے) کہ لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے
 نکال کر ایمان کے نور میں اور باشاہوں کے غلم و ستم کے پنجھے سے
 نکال کر اسلام کے عدل میں اے آئیں۔“

اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ خطبہ جو آپ نے بیعت
 خلافت کے بعد ارشاد فرمایا تھا اور جو واقتناً ایک اسلامی ریاست کے مقاصد کو
 منسین کرتا ہے اس میں وہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے :
 ”تم میں سے ہر قوی میرے یعنی ضعیف ہے جب تک اس سے حق وصول
 نہ کروں اور تم میں سے ہر ضعیف میرے لیے قوی رہے گا جب تک
 اس کو اس کا حق نہ دلوادوں۔“ تو گویا قیام عدل و قسط اسلام کا مرکزی
 خیال ہے۔

حال ہی میں جو سالانہ قرآن کانفرنس کراچی میں ہوتی اس میں ایک صاحب
 نے بڑی عمدہ بات کی طرف توجہ دلائی کہ اس وقت جو دنظام دنیا میں قائم ہیں ان
 میں ایک ایک لفظ مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ کیپٹنیزم کا مرکزی خیال از ادی
 (Freedom) ہے جبکہ کیونزم کا مساوات (Equality) ہے یہ ان لوگوں کے سلوگن
 ہیں۔ ذہن میں رہے کہ یہ دونوں بڑی اہم انسانی قدریں ہیں۔ لیکن اسلام کا بنیادی

خیال (Basic theme) "عدل" ہے۔ وہ آزادی اور مساوات دونوں کو عدل کا پابند کرتا ہے۔ گویا وہ آزادی اور مساوات کے درمیان بھی عدل قائم کرتا ہے تاکہ نہ آزادی اتنی بڑھ جائے کہ مساوات کو بالکل پریپ کر جائے یعنی (Freedom at the cost of equality) نہ ملکیت ہی مساوات کا ہوتا اتنا بڑھ جائے کہ وہ آزادی کو بالکل نسل (Equality at the cost of freedom) بھی نہ ہو۔ اسلام کا مرکزی تصور عدل ہے اور وہ اس عدل کو ہرگوشہ زندگی میں نافذ کرنا چاہتا ہے۔

قیام عدل و قسط کی اہمیت

انسانی اجتماعیات کے بہت بڑے عالم اور جدید معاشرتی اور سماجی مسائل کی طرف دو صدی قبل توجہ دلانے والے، اور ان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں حل پیش کرنے والے عظیم مجددین امام الحنفہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں عدل و قسط کے قیام کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے اور اس پر انہوں نے بہت عمدہ دلیل قائم کی ہے کہ اسلام یہ عدل اس لیے قائم کرنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی بارازن اور ظالمانہ (یا جدید اصطلاح میں احتصالی) نظام راجح ہو جاتے تو اس کے نتیجے میں ابادی کی ایک عظیم اکثریت بالکل ہیوانوں کی سطح پر زندگی بسر کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے لیے کسی اعلیٰ سوچ، فکر یا خیال کا امکان ہی باقی نہیں رہتا اور اکثریت کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ کوہو کے بیل اور بابرداری کے اونٹ کی مانند پانی دو وقت کی روئی کے لیے جان گسل محنت میں صبح سے شام تک مصروف رہے تو کہاں ائمہ سے مجتہ کرنا اس کو چاہنا، اس سے لوگا کر بیٹھنا یا کسی اعلیٰ فکر کی طرف متوجہ ہونا۔ گویا اب انسانوں کے لیے اس مقصد کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں رہتا کہ جس کے لیے ان کی تخلیق ہوئی تھی۔

بلغوا تے الْفَاظُ قَرَآنِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ" کہ میں نے یجنوں اور انسانوں کو صرف بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔

لہذا اسلام یہ چاہتا ہے کہ نظام عدل و قسط قائم ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں

لے ہو۔ تجھے سے بھی دلفریب ہیں تم روزگار کے"

کو موقع حاصل ہو کر اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس سے مجت کریں اور اس سے کو نگائیں۔

ان دو مقدوات کے بعد اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔
 حضرات اسلام نے معاشی اور اقتصادی معاملات میں عدل و قسط کا جو مقام
 متعین کیا ہے اور جس میں اس نے سعادت اور آزادی الیسی دونوں اعلیٰ اقدار
 کو خوبصورتی سے سوچا ہے وہ نظام کیا ہے؟ میں اس کی طرف آتے ہوئے
 ایک بات کہنا پاہتا ہوں جو شاید اکثر لوگوں کو پہنچا دے اور یہی میں چاہتا ہوں کہ
 ذہن بیدار ہو جائیں۔ وہ یہ کہ اسلام کا معاشی نظام ایک نہیں دو ہیں۔ دونوں کا
 اپنی اپنی جگہ ازابتدا تا انتہا مکمل ہیں۔ دونوں کا اپنا ایک فلسفہ ہے، دونوں کا
 ایک نظریہ ملکیت ہے، نظریہ حقوق، نظریہ قدر زائد (Surplus Value) ہے۔ یہ
 تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو کسی بھی معاشی نظام میں بنیادی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہیں اور
 یہ سب چیزیں ان دونوں میں بالکل جدا چکا ہیں۔ کوئی چاہے تو یوں کہہ لے کہ یہ
 دونوں ایک ہی نظام کے درجے ہیں لیکن بہ حال ان کے علیحدہ علیحدہ وجود
 سے اسکا ممکن نہیں۔ یہ دونوں نظام ایک دوسرے سے انٹرکونٹینڈ بھی ہیں، بہت
 حد تک انٹرڈینپنڈنٹ بھی، اور اسلام کی برکات اور اس کے ثمرات کا کامل خلور
 ان دونوں کے اجتماع اور اتصال ہی سے ہو سکتا ہے۔

اور یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ اگر ان دونوں میں سے ایک پہلو نگاہوں سے
 او جھل ہو جائے اور توہہ صرف ایک ہی پر مرتکب ہو جائے تو اس سے جو تصویر
 سامنے آتے گی وہ اصل حقیقت سے بہت دور ہو گی۔ ان میں سے ایک
 اسلام کا روحانی و اخلاقی نظام ہے اور دوسرا قانونی و فقیہی نظام۔ ان دونوں
 کے تفاضل بسا اوقات مختلف ہی نہیں متناقض ہوتے ہیں۔ تا ہم ان دونوں کے

لے ایک اہم بات یہ پیش نظر ہے کہ قرآن و حدیث میں نظام اسلامی یا نظام مصطفیٰ کی امتلاع ہیں
 نہیں ہلتی۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے اور وہ یہ کہ نظام کوئی جامد شے نہیں بلکہ ہر دو کی عملی اور معاشرتی
 سطح کے مطابق نظام وجود میں آتا ہے۔ اس سطھے میں اسلام کی رہنمائی ہمایات "اور حددود" کی صورت
 میں ہے۔ اسلام نے "حلال اور حرام" کی کچھ حدود تعین کی ہیں جن کی محی و تدوین سے "نظام" دھرمیں آتا ہے۔

امتراج ہے اسلام کا کامل نظام وجود میں آتا ہے۔ آپ چاہیں تو ان دونوں پہلوؤں کو "دھوئی" (Anti-thesis) اور "جواب دھوئی" (Thesis) سے تبیر فرمائیں اور ان دونوں کے امتراج کو synthesis قرار دے لیں۔ ایک چھوٹی اور سادہ سی شال سے بات واضح ہو جائے گی۔ کوئی شخص آپ کے ایک تھیٹر مارڈے تو اگر آپ بالکل عاجز و مکروہ ہیں تو اس صورت میں قبرِ درویش بر جانِ درویش" کے سوا اور کوئی صورت قابل عمل ہے ہی نہیں۔ اس کے بر عکس اگر آپ بدلتے یعنی پر قادر ہیں تو آپ کے سامنے دو راستے کھلے ہیں: ایک یہ کہ آپ بدلتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ معاف کر دیں۔ اس صورت میں ایک جانب اسلام کا قانونی اور فقہی نظام بدلتے اور قصاص کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم فرماتا ہے: وَلَكُفُّ الْمُّقْصَاصِ مَيْهُوٌةٌ يَا أُولَئِ الْأُلَيَّابِ (آل عمران: ۱۴۹)، لیکن دوسری طرف اسلام کا اخلاقی اور روحانی نظام ہے جو عفو و درگز کی تلقین کرتا ہے۔ یعنی اگر معاف کر دو تو یہ تقویٰ اور خدا ترسی سے قریب تر ہے۔ چنانچہ شوق اور رغبت دلانے کے انداز میں فرمایا جاتا ہے: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْأَفْانِينَ عَنِ النَّاسِ (آل عمران: ۱۳۲)، یعنی وہ لوگ جو غصہ کو پنی جائیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ دیکھ لیجیے کہ عفو و قصاص ایک سے کی بالکل ضد ہیں لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ انسانی معاشرہ ان دونوں میں سے صرف ایک پر استوار ہو سکتا ہے۔ دونوں اپنے اپنے مقام پر لازم و ناگزیر ہیں اور صحن معاشرت ان دونوں کے امتراج ہی سے وجود میں آتا ہے۔

اس پر قیاس کر کے سمجھ لیجیے کہ اسلام کے معاشی نظام کے بھی دو پہلو ہیں چنانچہ ایک جانب قانونی اور فقہی نظام معيشت ہے جس کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ یہ ایک نوع کی محدود سرمایہ داری (Controlled capitalism) ہے، اس لیے کہ اس میں انفرادی سرمایہ کاری کی اجازت موجود ہے۔ اگرچہ اسے "سرمایہ دارانہ نظام" بننے سے بعض تحدیدی اقدامات نے روک دیا ہے۔ دوسرا طرف اسلام کا روحانی و اخلاقی نظام معيشت ہے جس کے بارے میں میں پورے انتراج صدر سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک نہایت اعلیٰ قسم کی روحانی اشتراکیت ہے اور ایک ایسا کامل سوشلزم ہے کہ اس کے آگے

کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اس لیے کہ سو شریم یا کیمیزدم میں تو پھر بھی انسانی ملکیت کا اثبات موجود ہے الگچہ انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی، لیکن اسلام اپنی اخلاقی و روحانی اور صحیح تر الفاظ میں ”ایسا نی تعلیم“ کی رو سے انسانی ملکیت کی کل نفی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں کہ ”لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ“ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک صرف اللہ ہے۔ انسان کسی اور شے کا مالک تو کیا ہو گا خواہ وہ زمین ہو، مکان ہو، سازو سامان ہو، روپیہ پیسہ ہو وہ تو خود اپنا اور اپنے وجود کا مالک بھی نہیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں، احضان و بوارج اور جسم و جہاں اور اس کی گل تو ناسیاں سب اللہ کی ملکیت ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان کا امین ہوں۔ بقول شیخ سعدی ۔۔۔
ایں امانت پھندروزہ نزد ما سست دلحقیقت مالک ہر شے خدا سست
یا بقول علامہ آفیال مرحوم

رزقِ خود را از زمین بروں رواست ایں متاع بندہ و ملک خدا سست
اس اعتبار سے بھی ہمارے ہاں بڑی کیفیتوں پائی جاتی ہے۔ سو شلسٹ ذہن رکھنے والے اپل قلم ایسی آیات اور احادیث کو اکٹھا کر کے ہر شے کی ملکیت کی کامل نفی کرتے چلے ہیں اور صدورت سے زائد اپنے پاس رکھنے کی بھی، کہ جب ”عَلِ الْعَفْوِ“ فرمایا گیا تو زائد چیز بھرآ بھی وصول کر لی جائے گی۔ اس طرح وہ ایک کامل اسلامی سو شریم کا نقشہ پیش کرتے ہیں، جب کہ وہ دوسرے پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قانون و راثت بھی اسی قرآن میں موجود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام برپا کیا تھا اس میں کیمیں جبکی مساوات دکھائی نہیں دیتی۔ بلکہ اس کے برعکس آزاد معیشت کے موقع دیے گئے تھے کہ محنت کرو اور جائز ذرائع سے کماڑ اور ان ذرائع سے تم جو کچھ کماڑ گے اس پر تمھارا حقِ تصرف (جو بہت قریب ہو جاتا ہے حقِ ملکیت کے) یہاں تک تعلیم کیا جائے گا کہ اس کو وراثتاً منتقل بھی کیا جا سکے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں بعض مفکرین اور اصحابِ قلم نے صرف اس قانونی نظام کو اتنا نمایاں کیا ہے کہ

لہ جتنا ضرورت سے زائد ہے اللہ کی راہ میں دے ڈالو۔ (آل بقرہ: ۲۱۹)

دوسرے پلو دب گیا ہے یعنی "قل العفو" کی آیت ان کی تقریر و تحریر میں نہیں آتی۔ یاد رہے کہ یہ کنفوزن را (جھن) پورے خلوص کے ساتھ مخفی غلط فہمی کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش کی جائے کہ یہ غلط فہمی ہمارے دور اول یعنی خلافتِ راشدہ کے دوران بھی پیدا ہو گئی تھی، مثلاً حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلبہ زہد کے باعث یہ رائے قائم کی کہ ضرورت سے زائد اشیائے صرف اور کسی بھی مقدار میں سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں۔ آپ نے آئیہ کنز کو بالکل اس کے ظاهری الفاظ پر محول کیا۔ خلافتِ راشدہ کے اس نظام میں جس پر تمام اہتمام بحث تھی اس رائے کو ایک انتہائی موقف قرار دیا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں انھیں مدینہ منورہ سے باہر چلے جانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ ایک بیان میں انھوں نے جھوپڑا ڈالا اور وہیں ان کا انتقال ہوا بلکہ یہ نظام اسلامی کا وہ روحانی پلو ہے جس کی طرف اسلام انہوں کو ترغیب دینا چاہتا ہے یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے توبیہ اور روحانی مرتب کے حصول کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسلام کے ساتھ ایمان بھی ہے، اور اس سے اپر احسان کا درجہ بھی ہے، مگر اس کو قانونی درجہ دے دینا ایک مناطقہ تھا جو حضرت ابوذر غفاری کو پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ لاحق ہوا۔ لیکن آج یہ مناطقہ جان بوجھ کر اور بینیتی کے ساتھ دیا جا رہا ہے کیونکہ آج تو خلافتِ راشدہ کا نظام پورے کا پورا ہمارے سامنے موجود ہے اور اہمیت کے اس اجتماعی فیصلہ کو نظر انداز کرنا بغیر بذیقی کے ممکن ہی نہیں۔

لئے سورہ المائدہ ۳۲ :
لئے حضرت ابوذر غفاریؓ کے احساس کا یہ عالم تھا کہ وفات کے قریب آپ نے زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تم نے یہ کیا سانپ اور بکھو اپنے گردبھی کر لیے ہیں تو انھوں نے کہا کہ کہاں ہیں وہ سانپ اور بکھو۔ تو آپ نے مولوی پیرزادی بیسے قوا، پچھا اور پیچی کا حوالہ دے کر کہا یہ نہیں پڑے ہوئے میرے گرد بھی حضرت ابوذر کے اسی علیہ زہد کی وجہ سے آنحضرت نے فندہ مایا تھا کہ تم میں سے جو چاہے کہ حضرت عیلیٰ کا زہد اپنی آنھوں سے دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ میرے ساتھی ابوذر کو دیکھ لے۔

لئے حدیث بجریل و سورہ المائدہ ۹۳ :

روحانی نظام کے چار اصول

اس روحانی معاشری نظام کے چار اصول ذہن میں پھر مرتب کر لیجیے۔

۱) انسانی ملکیت کی کلی نفی۔

۲) انسان کو اس دنیا میں جو کچھ ملتا ہے اس کی کمائی نہیں اللہ کا فضل ہے۔

گودکان پر وہ بیٹھا ہے، کھیت میں ہل اس نے چلا�ا ہے، محنت اس نے کی ہے، یہیں ایمان کا تعاضا یہ ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس کو اللہ کا عطیہ اور اس کا فضل سمجھے۔ اگر اسے اپنی محنت کا شہر سمجھو گے تو اس پر اپنا حق ملکیت جتا گے لیکن اگر اللہ کا فضل سمجھو گے تو اس میں سے اپنا حق اسی قدر سمجھو گے جس قدر اللہ نے معین کیا ہے۔

۳) انسان کا جائز حق کیا ہے؟ صرف اس کی ضروریات کے بقدر، ان کو بھی بعض احادیث میں متعین کر دیا گیا ہے۔

الف: اگر دو وقت کھانے کے لیے مل گیا ہے۔

ب: سرچھپانے کے لیے اگر کوئی چھت موجود ہے۔

ج: پہنچنے کے لیے اگر دو بوڑے کپڑوں کے موجود ہیں۔

د: اور اپنے کردار، اخلاق اور عفت کی حفاظت کے لیے اگر ایک بیوی مل گئی ہے۔

قو تھارا بنیادی حق تمہیں مل گیا اور اس سے زائد جو کچھ ہے وہ تمہارا نہیں دوسروں کا حق ہے۔ اس کو پہنچا دو ان تک کہ جن کے پاس نہیں ہے اور پھر سمجھو کہ تم غریبوں کی اس امانت کے بوجھ سے بکدوش ہو گئے کہ جو امتحان کی غرض سے تمہارے مال میں شامل کر دی گئی تھی اور یہی ہے درحقیقت وہ مقام جہاں تک "قل العفو" کا سارا فلسفہ پہنچانا چاہتا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی قدر زائد ہے اس کو مزید کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ضرورت پوری ہو گئی تھارا حق مکمل ہو گیا، اب جو زائد تمہارے پاس ہے وہ خواہ قانوناً تمہارا ہے مگر حقیقتاً تمہارا نہیں ہے۔ گویا یہ ایک مکمل نظام ہے، اس میں ملکیت اور قدر زائد اور یہاں تک کہ

اس قدر زائد کا مصرف بھی طے شدہ ہے۔ اس سلسلے میں سوڈا نرگوم کی ایک آئینہ کارہ ملاحظہ ہے جس میں ربو (سُود) کا ذکر ب مقابلہ صدقات آیا ہے۔ فرمایا :

وَمَا أَشْيَتُمْ مِنْ رِبَارٍ سَيِّءُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عَنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ
وَمِنْ زَكْوَةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْضَغُونَ (سورة الرعد۔ ۳۹)

گویا دین کی روحاںی تعلیم کے اعتبار سے ربو و درحقیقت صدقہ اور خیرات کے مقابلہ ہے مثال کے طور پر ایک شخص ملزم ہے اس کو تخریخہ ملتی ہے جس سے اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور کچھ سرمایہ اس کے پاس جمع ہو گیا ہے۔ اس فاضل سرمایہ کے دو مصرف ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو کسی اور کے کاروبار میں لٹا کر اس کی محنت کے بل بوتے پر اس سرمایہ کو بڑھاتے (وہ خود تو محنت نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو کسی اور جگہ ملازم ہے) یہ بھی درحقیقت اس روحاںی سطح پر ربو ہی قرار پائے گا کیونکہ اس روحاںی اور اخلاقی سطح پر اس فاضل سرمایہ کا مصرف صرف ایک ہے کہ اس کا مالک محتابوں اور غریبوں کو بنا دیا جائے۔ یہ ان کو دے دیا جائے کہ جو محروم ہیں، یا جن کے پاس کاروبار کے لیے بنیادی سرمایہ موجود نہیں ہے۔ گویا فاضل سرمائی کو مزید آمدنی کا ذریعہ بنانا قانونی سطح پر جائز ہے مگر روحاںی اور اخلاقی تعلیم میں یہ چیز ممنوعات کی فہرست میں داخل ہے۔

قانونی اور فقہی نظام

حضرت! جیسا کہ عرض کیا ہے اسلام کا قانونی اور فقہی نظام معیشت ایک طرح کے کنقولہ کیپیٹیزم سے مشابہ ہے۔ اس میں تمام فطری تقاضوں کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس کی رو سے انسان کو اپنے مال پر حق تصرف حاصل ہے۔ عام حالات میں صرف زکوٰۃ کی حد تک اس سے جبراً وصول کیا جائے گا، باقی الگ وہ شوق سے چاہتے تو اہلہ کے راستے میں خرچ کرے اور خیر کمائے۔ لیکن اس کو اس بات کا قانونی حق حاصل رہے گا کہ اپنی ضرورت سے زائد مال کو کاروبار میں لٹا کرے اور اس کو دراثتاً منتقل بھی کرے۔ یہ تمام پچیزیں وہ ہیں کہ جو کسی سرمایہ ارانہ نظام میں لے اس میں خاص حالات میں استثمار ممکن ہے جس کی تفصیل بعد میں آتے گی۔

پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ پیش نظر رکھنا چاہئیے کہ اسلام نے اس قانونی نظام کو بھی ایک حد کے اندر رکھا ہے تاکہ یہ آزاد سرمایہ کاری، سرمایہ داری کی لعنت کی صورت اختیار کر کے انسانی معاشرے پر سلطنت ہونے پاتے۔ اس ضمن میں اسلام نے جو عملی تدبیر اختیار کی ہیں ان کو ان کے فلسفیانہ پس منظر سیست دو حصوں میں سمجھا جاسکتا ہے۔

الف : یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جب آزادی (خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو) دی جاتے گی تو کچھ اونچ نیچ لازماً پیدا ہو گی۔ دوڑ لگے گی تو یقیناً کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے اور کچھ پیچے رہ جائیں گے۔ آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے اس فرق و تفاوت سے پہنچا ممکن نہیں۔ آزادی خواہ کتنی ہی محدود کیوں نہ ہو؟ جب بھی آتے گی اس بات کا امکان بھر حال موجود ہے گا پہنچا نجہ اس کو کھلے دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ لیکن اسلام کے قانونی نظام معیشت میں اس بات کا اہتمام بھی کیا گیا ہے کہ معاشرے میں مال فرق و تفاوت کو تم کیا جائے۔ اس کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے۔ اسلام نے ایک حد قائم کی ہے کہ جو لوگ اس سے ادھر نکل جائیں دینے والے یا ہیں اور ادھر والے "لینے والے" یا Recipients ہیں۔

ان کو Haves شمار کر لیجئے اور ان کو Have-nots دین کی اصطلاح میں وہ علی الترتیب "صاحبِ نصاب" اور "مسکین" کہلاتے ہیں۔ یاد رہے کہ تقسیم بھی اللہ ٹپ (Arbitrary) نہیں ہے۔ اسے آپ اپنے اختیار سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ یہ ایک لائن ہے جو کھینچنی جا سکی ہے جس کے پاس اتنے اونٹ ہیں ادھر اور جس کے پاس نہیں ہیں ادھر۔ اگر اس فدرستا ہے تو ادھر اور نہیں ہے تو ادھر۔ اور اسی طرح جس کے پاس اتنی چاندی ہے ادھر اور جس کے پاس نہیں ہے ادھر۔ اس تقسیم کے بعد وہ نظام زکوٰۃ قائم کیا کہ جس کے بارے میں واضح فرمایا بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے "تؤخذ مم اغنىائهم و ترد الى فقراء هم" ان کے اغنياء سے مال وصول کیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دے دیا جائے گا۔ تاکہ معاشرے میں پیدا ہونے والی ناہمواری کا ستد باب ہو۔ اور ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ بھوکے اور نگکے رہ جائیں اور ان کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہ ہوں جبکہ کچھ لوگ اتنا سرمایہ جمع کر لیں کہ کیفیت وہ ہو جائے جس کے بارے میں سورۃ الحشر میں متنبہ فرمایا گیا ہے (کہ سرمایہ صرف تم میں سے صاحب ثروت

لوگوں کے درمیان ہی گردوش میں نہ رہ جائے جس کی ایک سادہ مثال ایک کروڑ پتی کی بیٹی کا لاکھوں روپے کا جیزے لے کر دوسرا کے کروڑ پتی کے گھر جانا اور کسی امیر کے بیٹے کی ساکرہ پر امیر کا لاکھوں روپے تھائے کا ابخار لگانا ہے۔ اس میں بظاہر سرمایہ گھوتا ہے گرر صرف اغیار کے دائرے میں۔ یہ معاشی چکی صرف وہیں گھوم رہی ہے اور اس کا آٹا چھلنی سے چھن کر پختے طبقوں تک نہیں پہنچ رہا۔ اسلام یہ چھانتا ہے کہ کسی معاشرے میں یا کسی ملک میں جو بھی ذرائع پیداوار اللہ نے تخلیق فرائے ہیں ان سے جو کچھ بھی حاصل ہو، اس کی ایک منصانہ تقسیم ہو۔ معاشرے کے تمام افراد پیداوار اور دولت سے متعلق ہوں اور گردوش دولت صرف بین الاغنیاء و مشکل کا مصدق نہ بنے۔

میں جس مفہوم کی ادائیگی کے لیے "کنشولر کیپیٹیزم" کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں اجمل اس مفہوم کو Internally managed capitalism کے الفاظ سے ادا کیا جا رہا ہے۔ سرمایہ دار بھی اس بات کو جان پکھے ہیں کہ نسلی اور عمیاں کیپیٹیزم کا کوئی مستقبل نہیں۔ وہ تباہی اور بریادی کی طرف جا رہا ہے۔ بقول علامہ اقبال مرحوم ۔

دیلیز مغرب کے رہنے والوں کی بستی دکاں نہیں ہے
کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کم عیار ہو گا
تمہاری تہذیب پانے خبر سے آپ ہی خود کشی کرے گی
جو شاخِ نازک پر آشیانہ بننے گا ناپایدار ہو گا

لہذا خود کیپیٹیزم اپنے اندر کچھ نمایاں تبدیلیاں کر رہا ہے۔ اس کی بہت نمایاں مثال آپ کو ریشن سسٹم میں ملے گی۔ مثلاً جو لوگ کام پر نہیں ہیں ان کو نان ایمپلائمنٹ الاؤنس دیا جائے یا ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست اپنے ذمے لے۔ چنانچہ آزاد معیشت بھی ہے کہ جو آگے نسل سکتے ہیں نہیں۔ لیکن ہر شہری کے لیے اس کی بنیادی ضروریات کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عذر کیجیے کہ اسلام کے نظام میں یہ چیزیں چودہ سو سال پہلے آپکی تھیں۔ اس ذمہ داری کا اندازہ حضرت عمرؓ کے اس تاریخی جملے سے لگایا جاسکتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے کوئی گتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے

اس کے بارے میں بھی بازپُس ہوگی۔ ”رالسان تو بحال اشرف الخلقات ہے اس کا حق جانوروں سے مُقدم ہے، اسلام آزادی دیتا ہے کرکماڈ اور کھاؤ، جائز حدود کے اندر اندر خوب محنت کرو۔ کوئی آگے بڑھ جائے اور کوئی چیچھے۔ لیکن یہ معاملہ ایک حد کے اندر اندر رہے اور جو چیچھے رہ جائیں ان کی بنیادی ضروریات کی ضمانت کے لیے زکوٰۃ اور عشرہ کا نظام قائم کیا گیا۔ کوئی چاہے تو اس کو اجتماعی انشورنس کا نام دے لے۔ اگرچہ اس میں ایک فرق ہے۔ انشورنس کسی بھی نوعیت کی ہو اس کو انسان اپنی کمائی میں سے خرچ کر کے کھاتا ہے جبکہ زکوٰۃ اور عشرہ کے ذریعے سے جو انشورنس اسلام فراہم کرتا ہے اس میں **Beneficiary** کا کوئی Contribution نہیں ہے، اس کے ادا کرنے والے صرف اغتیار ہیں۔

ب : اسلام نے مسکین اور صاحبِ نصاب لوگوں کے مابین فرق و تفاوت کو کم کرنے کے لیے صرف زکوٰۃ کے نظام پر ہی التفا نہیں کیا بلکہ اس آزاد سرمایہ کاری پر حلال و حرام کی وہ حدود و قیود قائم کی ہیں کہ جن کی موجودگی میں واقعاً سرمایہ کاری سرمایہ داری نہیں بن سکتی۔ ذرا شگاہ ڈالیے ان اقدامات پر اور قرآن مجید کی حکمت بالغہ پر عرشِ عرش کیجیے کہ بغیرِ معاشریات کا کوئی عنوان قائم کیے کیسی بنیادی اور اہم ہدایات دی ہیں۔

ذینما میں، ہمیشہ سرمایہ اور محنت کے امتراج ہی سے معاشی نتیجہ بخاتا ہے۔ ایک پچھوٹا سا خونپنجہ بھی اگر آپ لگائیں تو آپ کو یہیں تیس روپے کامال لگا کر بیٹھنا ہو گا۔ یہی حال بڑی دکان یہاں ہمک کہ کارخانہ اور مل بھی جو کچھ پیدا کرتے ہیں سرمایہ اور محنت کے امتراج ہی سے پیدا کرتے ہیں۔ گوجردیدہ ماہرین اقتصادیات خصوصاً سوشنٹ مصنفین نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ سرمایہ بھی محنت ہی کی پیداوار ہے لیکن یہ بحث درحقیقتِ مُرغی اور انڈے کی نوعیت کی ہے کہ ان میں سے کون سی شے پہلے ہے۔

بھر حال یہ امرِ مسلم ہے کہ اسلام کے نظامِ معيشت میں زیادہ زورِ محنت پڑ رہے اور اسے زیادہ سے زیادہ تحفظ دیا گیا ہے جب کہ سرمائے کی چیزیں

کم سے کم کھی گئی ہے اور اس کے صرف اپنی ذاتی جیشیت میں Earning agent ہونے کو کم سے کم تسلیم کیا گیا ہے اور اس کی بدترین صورت کہ :

- ۱۔ سرمایہ صرف سرمایہ ہونے کی جیشیت سے کمائی کا حق دار ہو۔
- ۲۔ وہ اپنا تحفظ بھی چاہے۔
- ۳۔ گھائے میں شرکیب نہ ہو۔
- ۴۔ اور نفع میں بھی ایک معین شرح لے رہا ہو۔

یہ چار عناصر سود یا بلو کے جزو لاینفک ہیں جسے اسلام نے حرام مطلق قرار دیا ہے۔ اس لعنت کو جس طرح اسلام نے اپنے نظام میشت میں ختم کیا ہے اور جس طرح اس کی جزو کاٹی ہے اس کی کوئی نظریہ نہیں ملتی۔ قرآن مجید میں شراب اور بدکاری کے ارتکاب جیسے براہم پر بھی وہ انداز اختیار نہیں فرمایا جو سود پر کیا گیا ہے۔ کوئی شخص اگر جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلطی کر بیٹھا ہے تو اس پر حد تو جاری کی جاتے گی لیکن قرآن مجید میں اللہ کا جو غصب اور غصہ سودی کاروبار کرنے والوں پر بھڑکا ہے کسی اور پر نہیں بھڑکا۔ فرمایا کہ اگر تم سود کے لین دین سے باز نہیں آتے تو ”فَإِذَا رَجَعْتُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ (المیران) تو سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول کا تھارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور حدیث میں تو واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے سب سے بڑے رمز شناس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ ہماری ذہنی سطح سے قریب تر ہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا:

الرَّبُّو سَبْعُونَ جُزًءاً إِيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ امْلَهُ

(رُؤاہ ابن ماجہ و یہقی)

بلو (سود) کے ستر اہواز میں (یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے ستر حصے کیسے جا سکتے ہیں) اور ان میں ہلکا ترین بھی اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔

یہ انداز بظاہر کھلتا ہے کہ آپ نے یہ انداز تعییر کیوں اختیار فرمایا، لیکن جب میں نے غور کیا تو احساس ہوا کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان کو بہت سے لگنہوں سے

طبعی نفرت ہے نصوصاً ہمارے ہاں ایک نام نہاد "دیندار" مگر اصلًا "کاروباری" طبقہ ہے۔ ان لوگوں کو نماز روزے سے بڑی دلچسپی ہے۔ حج کرنا تو گویا ان کا محبوب مشغله ہے اور دارالعلوم اور مساجد بظاہر قائم ہی انہی کے بل بوتے پر ہیں، شراب سے ان کو بڑی نفرت ہے اور اگر اس پر زنا کا اضافہ ہو جاتے تو گویا قیامت آگئی، مگر سود سے ان کو کوئی نفرت نہیں اور وہ بڑے ذوق و شوق سے سُودی کاروبار کرتے ہیں۔ لہذا بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میزان عدل میں تول کر ایک نسبت و تناسب قائم فرمایا ہے اور واضح فرمایا ہے کہ اس کی اصل حیثیت کیا ہے یعنی معاشرتی بُرائی ہونے کے اعتبار سے یہ زنا کی بدترین صورت (یعنی ماں کے ساتھ زنا) سے بھی ستر گا زیادہ بھیانک ہے۔

بالکل اسی نوعیت کا ہے وہ انداز جو سورۃ الحجرات میں غیبت کی خیقت کو واضح کرنے کے لیے غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے متادف قرار دیا گیا ہے کہ جس طرح ایک مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جیسے چاہو نوعِ دلو، اسی طرح تمہارا جو بھائی موجود نہیں وہ بھی اپنی مافحت سے قاصر ہے جیسے چاہو اس کی بُرائی کر لو۔

فی الجملہ مہارے نظامِ شریعت میں اور احکامِ دین کے اس پورے سلسلے میں
جو بدترین بُرائی قرار دی گئی ہے وہ سُود ہے۔

اصل میں یہی وہ چیز ہے جس پر سرمایہ داری پروان پڑھتی ہے اور ہمارے
دین میں اس کی جو کاٹ دی گئی ہے۔

کاروباری وہ صورتیں جو مطلاعِ احرام ہیں

سرمایہ جب اپنے بل بوتے پر مارکیٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور مارکیٹ میں اتار پڑھاؤ پیدا کرتا ہے، مثلاً ایک شخص سرمایہ کی نیاد پر کبھی ایک دم بہت سا مال خرید کر قیمتیں برٹھا دیتا ہے اور مارکیٹ کو اونچا لے جاتا ہے اور کبھی ایک دم بہت سا مال یلیزیر (Release) کر کے مارکیٹ کے بھاؤ گرا دیتا ہے تو یہ سرمائے کا کھیل بلکہ

نکاح ناج ہے۔ مارکیٹ میں اس کے بتنے بھی ذرا نج ہیں ان کو دین اسلام نے حرام مسلط قرار دیا ہے۔ شملًا :

① ذخیرہ اندوزی (HOARDING)

اس سلسلے میں سب سے زیادہ زور اشیاء خود (Eatables) پر دیا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کی سب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہیں۔ اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے باقی اشیائے ضرورت کو بھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کے بارے میں ارشاد فرمایا:

”جس نے کھانے پینے کی چیز چالیس دن تک روک کے رکھی رہا زار میں مانگ ہے مگر وہ اس کو فراہم نہیں کر رہا، چاہتا ہے کہ قیمتیں بڑھ جائیں تو وہ اللہ سے بری ہو گیا اور اللہ اس سے بری ہو گیا اللہ کا کوئی تعلق اس سے نہیں اور اس کا کوئی تعلق اللہ سے نہیں۔“

② سُقْطَة (SPECULATION)

کچھ لوگوں کی ایک معاشی یحیثت متعین ہے اور وہ سُقْطَة یہیں اور یہیں بٹھائے مال کے خرید و فروخت کا پچھر پلاتے رہتے ہیں حالانکہ وہ نہ بالفعل مال خریدتے ہیں اور نہ بیچتے ہیں اور نیجتہ مارکیٹ میں آنے سے قبل ہی مال پر منافع کی تھیں پڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ تمام پیشگی فرضی سودے سربیہ داروں کا ایک کھیل ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے دین میں بوجمال موجود نہ ہو اس کا سودا نہیں ہو سکتا سوتے ایک استثنائی صورت کے جسے یعنی سلم، کہا جاتا ہے۔

③ الشورنس (INSURANCE)

میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مختلف چیزوں کی حقیقت کو سمجھیں۔ بقول علامہ اقبال

اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن

جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا

بعض چیزوں دیکھنے میں بہت خوشنما نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ بھی اسی نوعیت کی ہیں کہ جن کا اور ذکر کیا گیا ہے۔ انہی میں ایک الشورنس ہے۔ ہم کسی درجے میں یہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں یہ شے حرام ہے۔ اس کی حُرمت کی

حکمت سمجھیے کہ اس حرمت سے کس طرح سرمایہ کاری (جس کی اسلام میں اجازت ہے) کو سرمایہ داری بننے سے روکا گیا ہے۔

الشورنس کیا ہے؟

اول تو اس میں چانس والا جو تے کا پہلو ہے لیکن اس سے پہلے اس کی اصلیت ہی سرمایہ دارانہ ہے۔ اصل انٹرنیشن تودہ ہے جو بڑی بڑی فیکٹریوں اور کارخانوں کی ہوتی ہے۔ ایک سرمایہ دار نے دس لاکھ روپے کے سرمائی سے ایک کارخانہ بنایا، فرض کیجیے وہ ایک ماہیں کی فیکٹری لگاتا ہے۔ اس کا یہ کارخانہ آفیٹ سماویہ کی زدیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سیلاب آجائے یا کسی اتفاقی حادثہ میں آگ لگ جائے اور سارا کارخانہ جل کر راکھ ہو جائے، لیکن وہ سرمایہ دار اپنے سرمایہ کا تحفظ چاہتا ہے انٹرنیشن کے ذریعے سے۔ لیکن وہ یہ تحفظ بھی اپنی جیب سے نہیں کرتا۔ اس کے لیے وہ جو پریم (Premium) ادا کرتا ہے اس کو اپنے اخراجات میں داخل کر کے دیا سلامی کی لگت (Cost) میں شامل کرتا ہے اور دیا سلامی کی دبیس کی قیمت اگر ۲۵ پیسے ہے تو اس میں ایک پیسہ یا کم و بیش وہ سرمایہ دار صرف (Consumer) سے اپنے سرمائی کے تحفظ کے لیے وصول کر رہا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ قومی معیشت کے اعتبار یہے تباہی ہو گئی، ملکی سطح پر دس لاکھ روپے کا نقصان تو ہو گیا لیکن وہ سرمایہ دار اس قومی نقصان سے لاتعلق رہنا چاہتا ہے۔ وہ صارف کی کاست پر اپنے سرمایہ کا تحفظ کرتا ہے اور اپنے مستقبل کا بھی۔ وہ یہ تحفظ عوام کی جیبوں پر بوجھ ڈال کر کرتا ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت انٹرنیشن کی۔ گویا یہ فی الحیقۃت سرمایہ داروں کی ایک کوآپریٹو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ صرف سرمایہ داروں کے سرمائی کے تحفظ ہے۔ اور ”کی لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مُنْتَهٰ“ کی جیتی جاگتی تصوری۔ یہ سرمایہ داری کی لعنت کو تقویت پہنچانے والی شے ہے، جس کی حرمت کا اسلام نے فصلہ صادر فرمادیا ہے۔

لے لائف انٹرنیشن کے حق میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے اس میں سے جو کے کا پہنچاں کال دیجیے تو وہ اتنی سخت چیز نہیں لیکن حرمت نہ پہلو بہ حال ہے۔ میں اس کا قائل ہوں۔

میشیت کی ناپسندیدہ مختلف فنیہ صورتیں

اب تک تو میں نے وہ پھریزیں بیان کی ہیں جو حرام قطعی ہیں۔ تھوڑا سا یونچے آئیے تو ہمارے دین میں ایک اور دائرہ ہے جس میں اسلام نے کچھ پھریزوں کو یا تو حلال رکھا ہے یا یہ کہ ان کی حلت و حرمت میں اختلاف ہے لیکن روح دین کے اعتبار سے ناپسندیدہ ہیں۔ ان سب کو میں ایک ہی گروپ میں لا رہا ہوں۔

الف: مضاربت :

ایک شخص محنت کر سکتا ہے دکان چلا سکتا ہے، مگر اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے اور کسی دوسرے شخص کے پاس زائد سرمایہ موجود ہے۔ اب یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں، ایک کی محنت ہو گئی دوسرے کا سرمایہ۔ اس صورت میں محنت اور سرمایہ کا امترنالوج وجود میں آئیگا اور اس کا نام مضاربت ہے۔ یہ دین میں جائز تو ہے مگر پسندیدہ نہیں جیسے مثلاً طلاق یا اگر کسی کے پاس سرمایہ ہی اتنا ہے کہ جس پر خود اس کی معیشت کا داروں مدار جل سکتا ہے تو وہ خود دکان لگائے، محنت کرے اور رزق حلال کائے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس اپنی ضروریات کے لیے کوئی اور ذریعہ موجود ہے اور وہ فاضل سرمایہ اپنے ایسے بھائی کو دے رہا ہے جو سرمایہ نہ ہونے کے باعث کسی اور کے سرمائیے پر کام کرنے پر مجبور ہے لیکن یہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوتے اپنے سرمائیے کی بنیاد پر اس کی محنت میں حصتے دار بتتا ہے۔ یہ جائز تو ہے کیونکہ اگر کسی بھی درجے میں آزادی کو برقرار رکھنا ہے تو اس نظام میں یہ گنجائش تو رکھنا پڑے گی۔ لیکن اسلام اس کو بس مجبوراً جائز قرار دیتا ہے۔ جبکہ اس کے نزدیک پسندیدہ پھریز وہی ہے جس کا ذکر اخلاقی نظام کے تحت 'قل العفو' کے حوالے سے گزند چکا ہے۔ لیکن اس میں بھی دیکھیے کہ اسلام نے کس مضاربت کو جائز قرار دیا ہے۔ ہمارے ہاں جو

امترنالوج کی ایک صورت مشارکت بھی ہے کہ دو آدمی مل کر کاروبار کرتے ہیں دونوں سرمایہ بھی لگاتے ہیں اور دونوں محنت بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت سرے سے ہے ہی نہیں۔

لہ لہ البعض الحلال عند الله الطلاق (الحدیث) جائز کاموں میں اللہ کے نزدیک سمجھ کر وہ طلاق ہے۔

مضاربیت ہوتی ہیں ان پر قیاس نہ کیجیے۔ فقط مضاربت کے اشتراک سے یہ نہ سمجھ لیجیے کہ اس نام سے جو کچھ ہے وہ جائز ہے۔ اسلام جس مضاربت کو جائز قرار دیتا ہے اس میں محنت کو پورا پورا تحفظ دیا گیا ہے، جبکہ سرمائے کو کوئی تحفظ نہیں دیا گیا۔ اگر نفع ہوگا تو محنت کرنے والے کو اس میں سے حصہ ملے گا، لیکن اگر لکھا ہوگا تو اس کا کوئی بوجھ محنت کش پر نہیں پڑے گا۔ نقصان کا سارا بوجھ سرمایہ دار کو برداشت کرنا ہوگا۔

یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے۔ قرآن مجید میں بہاں تجارت کا ذکر آتا ہے وہاں **عَنْ تِرَاضِ مُتَكَبِّرِ** (کہ وہ تجارت باہمی رضامندی سے ہو) کی شرط عالیہ کرتا ہے۔ اگر آپ کوئی شے خریدنے بازار گئے ہیں، آپ کو اس کا بجاوہ معلوم ہے آپ قیمت دے کر چیز خرید لیں گے اور معاملہ رضاو رغبت کا ہوگا، لہذا اس یہ شرط پوری ہو جائے گی۔ لیکن کوئی ایسا معاملہ جس میں کوئی شخص بالکل مجبور ہو، گو قانونی طور پر تو رضامندی ہو گئی، آپ کہیں گے کہ میں نے کب اس کو مجبور کیا تھا وہ خود میرے پاس آیا ہے کہ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے تم مجھے سرمایہ دو۔ میں محنت کر لوں گا اور تمھیں اس میں سے حصہ دوں گا۔ کہنے کو تو رضامندی ہو گئی لیکن درحقیقت یہ مجبوری ہے کیونکہ اس کے پاس اپنا سرمایہ نہیں۔ اگر ہو تو کوئی کب پسند کرتا ہے کہ کسی اور کو اپنی محنت کے حاصل میں شرکیں کرے۔ چنانچہ مجبوری کا پہلو اس مضاربت میں موجود ہے جس کی وجہ سے اگرچہ یہ حلال تو ہے ملکج پسندیدہ نہیں ہے۔

ب۔ مزارعہت :

اسی قبیل کی شے مزارعہت ہے۔ ایک شخص کی زمین ہے اور کوئی دوسرا اس پر محنت کر رہا ہے۔ اس مسئلہ میں فقہائے امت کے درمیان اختلاف ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر قسم کی مزارعہت حرام مطلق ہے۔ کا ان کی رائے میں اسلام میں کوئی امکان سرے سے موجود نہیں — بعض دوسرے فقہاء نے ان احادیث پر غور کرنے کے بعد

اس میں احسان اور مصالح مرسلہ کے اصول کے تحت کچھ گنجائشیں نکالی ہیں اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اُس دور کے خاص حالات میں ایک موجوداً وقت نظام کو کلیتہ بدلنا ممکن نہ تھا، لہذا کچھ ناگزیر شرائط کے ساتھ ان کی گنجائش پیدا کی گئی تھی، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزارعۃ پر لفظ ربوہ کا اطلاق کیا ہے، کہ جب آپ نے حضرت رافعؓ ابن خدیجؓ کو دیکھا کہ وہ ایک کھیتی کو سینچ رہے ہیں۔ آپؓ کے علم میں تھا کہ رافعؓ کی اپنی کوئی زمین نہیں، لہذا آپ نے ان سے تفصیل پوچھی۔ حضرت رافعؓ نے بتایا کہ زمین فلاں شخص کی ہے اور محنت میں نے کی ہے اور ہمارے مابین یہ شرح مقرر ہوتی ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”قد آن بیتما“ یعنی تم نے ربوہ کا معاملہ کیا، ایک سودی کاروبار کیا۔ اور فرمایا کہ زمین اس کے مالک کو لوٹا دو اور ہو خرچ تھا را اس پر آیا ہے اس کی قیمت اس سے وصول کرو۔ اس لیے کہ اس میں مالک کی محنت شامل نہیں ہو رہی ہے، وہ صرف زمین کی ملکیت کی بنیاد پر اپنے ایک بھائی کی گاڑھے پیسے کی کمائی میں سے حصہ وصول کرنا چاہتا ہے۔

ہمارے ہاں مزارعۃ کی جو شکلیں رائج ہیں اس میں پھر بھی مالک یعنی اور بہت سی دوسری چیزوں میں شامل ہوتا ہے، یہ اس حلم کو ملال بنانے کے لیے کچھ اضافی شرائط عائد کی گئی ہیں۔ ورنہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آنکھیں کھول دینے کے قابل ہے۔ مجھے امام صاحب کی اس رائے سے کاملۃ التفاق ہے۔

خرید فروخت کے مرکب طرقوں پر مدد میں

جو مال موجود نہ ہو اس کے سودے کی جو شکل بھی ہو وہ حرام ہے مثلاً :

لے یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب ہماری اکثریت امام ابوحنیفہ کی فہیمت بیان کرتی ہے تو ان کو امام اعظم اور سید الغفار قرار دیتی ہے اور ان کے بعض فتاویٰ کو درست ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا تور لگایا جاتا ہے۔ مثلاً میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تکھو کے مصدق ایسے اہم معاملہ نہ پرانے کے فتوے کو سرے سے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔

① ٹھیکے پر زمین دینا۔ لاک نے ایک وقفے کے لیے زمین کی قیمت وصول کر لی ہے۔ اب کاشت کار کو اس سے کوئی بچت ہوتی ہے یا نہیں، اس کو اس سے کوئی بحث نہیں۔ گویا یہ تو کھلی ہوئی سود کی صورت ہے اس لیے یہ حرام ہے۔

② باغ میں پھل آنے سے قبل اس کا سودا کرنا بھی ناجائز ہے۔

③ یہ تمام ایڈوانس بُرن (Advance Transactions) جو دنیا میں ہوتے ہیں ان کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ سیدھی سادھی بیع وہ ہے کہ قیمت دو اور مال وصول کرو یا ایک ہاتھ سے چیز لو اور دوسرا ہاتھ سے دو۔ تبادلے کی صورت میں یہاں بھی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا مقصود نہ ہو۔ ذنیبو اندوزی یا کوئی اور معناد پیش نظر نہ ہو۔ ایڈوانس بُرن کے اس طریقے کے باعث Over Trading ہوتی ہے ایک شخص کے پاس پانچ لاکھ روپے ہیں لیکن وہ پچاس ہزار روپیہ بیعاں ادا کر کے پچاس لاکھ کے سودے کر لیتا ہے تو اس سے سرمایہ داری کی لعنت جنم لیتی ہے۔ اس کو روکا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس پانچ لاکھ روپیہ ہے تو پانچ لاکھ ہی کا سودا کرو۔ اسلام میں ادھار کی صرف ایک صورت جائز ہے جس کو بیع سلم کہتے ہیں کہ ایک طرف سے پوری جنس یا قیمت ادا کر دی جائے اور دوسری طرف سے مال کی فرائی یا ڈیبوری کو موخر (Defer) کیا جاسکتا ہے لیکن آجکل جزوی ادائیگی کے بعثنے بھی سودے کیے جا رہے ہیں ان کی شریعت اسلامی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

۳ آڑھت :

اسی کے ضمن میں آڑھت آتی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"لَا يَبِيعُ الْحَاضِرَ لِلْبَادِي"

کوئی شہر کا آدمی باہر کے آدمی کا مال فروخت نہ کرے۔

یہ آڑھتی جو منظیوں میں اڈے جا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ مال جو یہ نیچتے ہیں ان کا اپنا نہیں ہوتا اور کئی دفعہ مال موجود بھی نہیں ہوتا۔ وہ صرف اپنے اڈے کی وجہ سے فروخت کندرہ اور گاہک دونوں سے کمیش وصول کرتے ہیں۔ ایک شخص

نے گندم بونی ہے تو وہ خود فروخت کرے اور اگر اس شہر والے کے پاس گندم کی قیمت موجود ہے تو پہلے پوری گندم خرید لے اور پھر اپنے پاس سے اسے فروخت کرے۔

اس اعتبار سے دیکھیے کہ یہ کس قدر دور رس ہدایت ہے جو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ورنہ ہمارے ہاں اجنس کی قیمتیں کو پڑھانے والے اور گوشت کی قیمتیں کو پڑھانے والے یہ آذھتی ہیں۔ لہذا اسلام نے ان کے عمل و حوصلہ کو کم کیا ہے۔

مڈل مین (MIDDLE-MAN)

جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اسلام نے اپنے معاشی ڈھانچے میں مڈل مین کے عمل و حوصلہ کو حقیقتی اوس کم کیا ہے۔

تفصیل دولت کے لیے اقدامات

- ۱ — وراثت : اسلام کا قانون وراثت ارتکاز دولت کو ختم کرتا ہے۔ ایک شخص کی جائیداد کا وارث کوئی دوسرا (ایک ہی شخص) نہیں بنتا بلکہ وہ جائیداد اور سرایہ بٹ کر بہت سے لوگوں کو ملتا ہے۔
- ۲ — انفاق فی سیل اللہ اور نفلی صدقات۔

انسانی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر دولت کمانا

جس طرح اسلام دولت کمانے کے لیے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا یا لکل اسی طرح انسانی کمزوریوں کو Exploit کر کے دولت کمانے کی بھی اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثلاً

(1) جنسی جذبہ (SEX)

جنسی جذبہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ میں نے سیکس کو انسان کی کمزوری کہا ہے۔ قرآن مجید نے بھی انسانی شرمگاہوں کو "فرج" کہا ہے۔ فرج کے لغوی معنی

ہیں اندیشے کی جگہ۔ فصیل میں جہاں دراڑ ہے وہ فرج ہے جہاں سے نیغم کے دستے کا یعنی حملہ آور کے اندر داخل ہونے کا موقع ہو۔ لہذا انسان کے اس جنی جذبہ کو مشتعل کر کے کمانے کو حرام مطلق قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ ساری فلم ائمہ ستری اور تجھہ گری کا کاروبار اور غوش لٹریچر کی طباعت و اشاعت اور خرید و فروخت کا دھندا ختم ہو جاتا ہے۔

۲ شراب پر پابندی

اسی طرح شراب بھی یہو انی جذبات کو مشتعل کرتی ہے چنانچہ اس کے پینے پلانے اور خریدنے اور نیچنے کو حرام مطلق قرار دیا گیا ہے۔

۳ فضول خرچی

انسان اکثر و بیشتر دولت کرتا ہے تعيش کے لیے، لیکن اسلام میں عیاشی کے تمام دروازے بند ہیں۔ قرآن مجید میں تبذیر (فضول خرچی اور نمود و نمائش) پر خسر ج کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور گویا اس طریقے سے بھی اسلام نے دولت کے ساتھ انسان کی محبت (Attachment) کو کم کر دیا ہے۔ تو پھر کوئی شخص سرمائے کو کیوں چاہے گا۔

قصہ مختصر سرمایہ داری کی لعنت پر اسلام کا حملہ کسی ایک جانب سے نہیں بلکہ مختلف اطراف سے ہے۔

تو یہ ہے وہ نقطہ عدل، کہ آزادی بھی برقرار رہے یعنی اسلام میں بجزی مساوات نہیں، لیکن اس بات کا معقول انتظام ہے کہ عوام کے درمیان معاشی نامہوا ری ایک حد سے بڑھنے نہ پاتے۔ رہی وہ بجزی اور کلی مساوات جس کی تعلیم سو شرکم دیتا ہے تو وہ دُنیا میں آج تک کبھی قائم نہیں ہوئی۔ اور فطرتِ انسانی سے بالکل بعید ہے۔

دو گنجائشیں

۱ ایک طرف اسلام نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ اگر کسی وقت رکوٹ

اور عشر کی حاصل شدہ آمدنی یا خس اور اس نوعیت کے دوسرے مخصوصات مثلاً فے دغیو سے حاصل شدہ رقوم ایم جنپی کے حالات میں کفامت علم کچھ لیے کافی نہیں ہوتیں تو اسلام غباراً اور مسکین کی وکیلی عام اسلامی ریاست کو حق دیتا ہے کہ وہ زکۃ وغیرہ سے زائد جبراً بھی وصول کرے۔ یعنی یہ حق تکیت اس طرح کی Sanctity اور اس نوع کا قدس نہیں رکھتا کہ جو ایک سرمایہ دار اذن خام میں اس کو حاصل ہوتا ہے۔

(۲) قومیانہ (NATIONALISATION)

دوسری طرف اگر کسی ذریعہ پیداوار کو پبلک سیکٹر میں رکھتے ہوئے عدل کا تقاضا پورا نہ ہونے پائے تو اسلامی ریاست میں اس ذریعہ پیداوار کو قومیانہ (Nationalise) کی گنجائش بھی موجود ہے۔ کیونکہ اصل شے عدل ہے۔ اگر عدل کا تقاضا پورا نہیں ہوتا تو کسی بھی صفت وغیرہ کو قومیانہ میں کوئی قدغن اسلام کی رو سے نہیں ہے۔

اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے۔ جب عراق کی زمینیں فتح ہوئیں اور دجلہ اور فرات کی سر زمین اور شام اور فلسطین کے انتہائی زیبیر علاقے اور سبزہ زار مسلمانوں نے فتح کیے تو مطالبہ کیا گیا کہ ان کو مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس پر عذر کیا اور یہ بڑا زراعی مسئلہ بننا رہا۔ اس پر بڑی لے دے ہوئی، مجلس شوریٰ کے اجلas منعقد ہوئے۔ دونوں طرف سے بھر پور دلائل دیے گئے لیکن آخر کار حضرت عمر فخر کے اجتہاد پر اجماع ہوا کہ ایسا کرنے سے عدل کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سب زمینیں اسلامی ریاست کی تکیت (Sieve It Yield) ہوں گی اور اس پر کام کرنے والے (Tenants) مزارے کی حیثیت سے برقرار رہیں گے۔ دہیں کے لوگوں کو حقوق دیے گئے الگ بچپ وہ تکیت کے حقوق نہیں تھے لیکن ایک نوع کی موروثی مزار تھی کہ وہ ان میں زراعت کریں گے اور اسلامی ریاست ان سے لگان یا خراج وصول کریں۔ ذہن میں رکھیے کہ اگر خلا نخواستہ اس موقع پر حضرت عمر فخر کا یہ اجتہاد سامنے نہ آتا تو گینا

لے یہ سب اسلامی ریاست کے عاصل ہیں اور ان سب کا بڑا حصہ وہ ہے کہ جو ^{Have notes} کی کفامت کا ذریعہ نہیں ہے۔ اسلامی ریاست میں Taxes کی اجازت ہے۔

میں پر تین جاگیر داری نظام اسلام کے ذریعے سے راجح ہو جاتا۔ کیونکہ عراق اور شام کے فاتحین کی تقدیر ادھر حصہ چند ہزار تھی۔ اور اگر وہ تمام زمینیں ان میں تقسیم کی جائیں تو وہ سب بڑے بڑے جاگیر دار بن جاتے۔

آخری بات

میں نے یہ دو نظام آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اسلامی ریاست میں یہ نظام علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ اسلامی نظام کی برکات کا ظہور صرف اس قانونی نظام سے نہیں ہو گا۔ میں واضح کر دوں کہ جب تک معاشرے میں بالفعل ایسے لوگ موجود نہ ہوں جو ایمانی اور روحانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہوں، یہ مقصد حاصل نہ ہو سکے گا۔ ایک ہمارا معاشرو ہے جس میں اصل قدر دولت کی ہے۔ جس کے پاس دولت و سرایہ ہے وہ صاحبِ عزت ہے۔ اس سے بڑے سے بڑے نیک آدمی بھی جھک کر طے گا۔ ذرا چشم تصور میں لائیے شیخ احمد سہمند ہی، یا سلطان الحسند نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہما کو جو قرآن کی ایمانی تعلیمات کا منظراً تھیں۔ ان کو دنیا کی کسی شے سے کوئی رجحت نہیں ہے، وہ دنیا کی کسی شے کی ملکیت حاصل کر کے بھی فخر کرنے والے نہیں۔ دو وقت کی روٹی اور سرچھپا نے کوچھ تھت اگر ہے تو کافی ہے۔ اس پر مزید حصول کی ان کے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ان کی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ دولت کے انبار اور شاہی سلطنت کا جاہ و جلال ان کو متاثر نہیں کرتا اور وہ عمل نہ نہیں ہیں "قل العفو" کی قرآنی تعلیم کا۔ یا یہ وہ لوگ ہیں جو Inspire کرتے ہیں اور ان سے معاشرے میں اقدار کا تعین ہوتا ہے جن کی موجودگی میں وہ ایمانی حقیقت سامنے رہتی ہے کہ اصل مسئلہ "معاش" کا نہیں، دنیا کی خاطر دوڑ و ہوپ کا نہیں بلکہ "معاد" کا ہے، آخرت کا ہے۔ اصل چیز دولت و ثروت نہیں، نیکی اور عمل صاف ہے۔ ائمہ کی محبت، اس کی بندگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سُستت کا اتباع ہے۔ اور اگر روشنی کے یہ مینار بالفعل موجود نہ ہوں تو میں یہ عرض کرنے کی جرأت کرتا ہوں کہ صرف قانونی نظام سے اسلام کی برکات کا ظہور کبھی نہیں ہو گا۔

اس بات کو ناگزیر ضرورت کی جیشیت سے اپنے سامنے رکھیے کہ معاشرے میں حضرت ابوذر غفاریؓ کی مثال کو زندہ رہنا چاہیے۔ ہمیں اصحاب صفت کا فخر سامنے رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس لگوٹیاں تھیں تو انکی کو سجدے میں جاتے ہوتے ان کو اندر شیشہ ہوتا کہ کہیں ان کا ستر نہ کھل جاتے، پیچے والے ان کا ننگ نہ دیکھیں۔ منتظر ہستے کہ جب بس پر لوگ سعد سے می پڑے، جلدی حلابی قبوعہ سمجھ سی ہے جانش، مدد پڑیں مدد لوگ آگئی ہے تو یہ اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہو گی۔

ہر دور کے کچھ تفاہنے ہوتے ہیں، آج وہ تفاہنے یکسر پول پکھے ہیں (رسی دور میں اتحاد اور مصالح مرسلہ کا کسی ایک طرف رُخ تھا تو آج دوسری طرف رُخ ہے) آج ضرورت ہے کہ اجتہاد کر کے اسلام کا پورا نظام جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپنی کلیت (Totality) کے ساتھ لوگوں کے سامنے لایا جائے کہ یہ ہے اسلامی نظام۔ اگر نافذ کرنا ہے تو اس کو پورے کا پورا نافذ کرنا ہو گا اور اسی کی ایک حقیرسی کوشش میں نے اس وقت کی ہے۔ ***

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
تَحْمِدُهُ وَتُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيمِ

سرمايه اور محنت

محترم صدر مجلس اور معزز خواہین و حضرات! آج میں اس مجلس میں خطاب کرتے ہوئے کچھ وقت سی محسوس کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ اگرچہ میں قرآن مجید کا ایک ادنیٰ طالب علم اور اسلام کا ایک ادنیٰ خادم ہوں اور اس اعتبار سے مجھے زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں قرآن مجید کی راہنمائی پیش کرنے کا اہل ہونا چاہیے۔ تاہم یہ میکنیکل سلسلہ کے سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن کیسے پیدا کیا جائے و اقتضائے دور جدید کے مشکل اور ہمیجیہ تین مسائل میں سے ہے۔ بلکہ اس کو اگر تقریباً لاپھل کہا جاتے تو غلط نہ ہوگا۔ اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس امر سے کہ مجھے اس میدان میں کبھی کوئی عملی تحریر نہیں ہوا۔ چنانچہ ایک طرف میں معروف معنی میں محنت کش بھی نہیں اور دوسری جانب سرمایہ دار تو کیا سرمایہ کار بھی نہیں ہوں، لہذا اس کوچے میں میری جیشیت عملی اعتبار سے بالکل فووارد کی سی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محترم بھن صبحہ شکل صاحبہ اور محترم سروار صاحب نے میرے لیے مزید وقت پیدا کر دی یہ فرمائ کر کہ وہ تو اس اجلاس میں اصلًا میری تقریر سننے کے لیے آئے ہیں۔ بعض دوسرے اصحاب نے بھی اصل راہنمائی کا بوجھ میرے کا نہ ہوں پڑھا کر میری ذمہ داری میں اضافہ کر دیا ہے۔ لہذا میں پوری کوشش کروں گا کہ اس موضوع پر دین کا جو بھی تھوڑا بہت فہم مجھے حاصل ہے اس کی روشنی میں ان مسائل کا مکمل حل آپ کے سامنے رکھوں۔ بیده التوفیق و علیہ التکلدن۔

آجر اور اجیر نہیں، آجر اور مستاجر ہمارے ہاں بعض اصطلاحات

اور اجیر میں کوئی فرق نہیں بلکہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی اجرت پر کام کرنے والا۔

اُبُرت پر کام کرنے والے کے لیے اصل اصطلاح "متابر" ہے۔ اسی قبیل کا ایک لفظ "متوفی" ہے جس کے اصل معنی ہیں وفات ہی نہیں والا۔ یعنی المثلہ، نہ کہ جو فوت ہو رہا ہے جس کے لیے اصل لفظ "متوفی" ہے۔ ایسا ہی ایک لفظ "متوفیہ" ہے جس کے معنی ہیں آغا کرنے والی۔ جبکہ اغا کی جانے والی "متواہ" ہے تو متابر و شخص ہے جو کسی سے اُبُرت پر کام لے رہا ہو اور آجر ہے وہ شخص جو اُبُرت پر کسی کے ہاں کام کر رہا ہو۔

محنت یا عمل | چونکہ مقامے کا اصل موضوع ہے "اسلام میں محنت کا تصور"

اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لفظ محنت پر بھی کچھ عرض کر دیا جائے۔ یہ لفظ اگرچہ عربی زبان ہی کا ہے مگر نہ قرآن مجید میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے، نہ حدیث، نہیں میں، نہ ہی موجودہ فضیح عربی میں یہ اس معنی میں مستعمل ہے۔ قرآن و حدیث کی اصل اصطلاح "عامل" ہے۔ یعنی عمل کرنے والا یا محنت کرنے والا۔ پھر دوسرا لفظ وہی آئیا ابیرا استعمال ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں کمائی کا اصل تصور | اس موقع پر یہ وضاحت مناسب ہوگی

حدیث میں بہت کم راہنمائی موجود ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی رو سے انسان کی اصل "کمائی" نیکی یا بدی کی ہے، چنانچہ اس میں اصل زور "کسب خیر" کی ترغیب اور "کسب شر" سے استنبات پر ہے، یعنی قرآن کا اصل Emphasis معاش پر نہیں بلکہ "معاد" پر ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ سوائے ایک آدھ استثنائی مثال کے "کسب" کا لفظ قرآن مجید میں رزق کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا۔ العرض از روئے قرآن انسان کی اصل کمائی وہ بیرون شریا بھلائی یا بُرائی ہے جو وہ آنحضرت کے لیے کارہا ہے، یہ اصل کسب ہے۔ اس کے برعکس رزق کیلئے قرآن مجید کی اصل اصطلاح "فضل" ہے یعنی قرآن جو تصور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہو کچھ ملتا ہے وہ اس کی محنت کا حاصل یا حصل نہیں بلکہ فضل خداوندی ہے۔ قرآن کے نزدیک یہ قادریت ہے کہ انسان اس مناظلے یا زعم میں بنتا ہو جاتا ہے کہ جو دنیوی سازوں سامان یا مال و تماع اسے حاصل ہے وہ اس کا اپنا پیدا کردہ ہے جیسے کہ قادر بنے کہا تھا کہ اُوْتَيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عَنْدِي یعنی یہ سب کچھ مجھے اپنے علم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، گویا یہ میرے علم و فرم، میری ذہانت و نظرانست، میری پیش بینی و پیش بندی، میری پیلانگ

اور فورسائٹ (Foresight) کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید اس کی نفع کرتا ہے اس کی تعلیمات کی رو سے محنت انسان ضرور کرتا ہے مگر جو کچھ اس کو ملتا ہے وہ سراسر اللہ کا فضل ہے زکر اس کی محنت کا حاصل یا صلح۔ اسلام کے اخلاقی نظام کے لیے اصل بنیاد یہی تصور فراہم کرتا ہے جبکہ سرباپیہ دلارانہ ذہنیت کی اصل بنیاد ہے "قاردینت"۔

محنت کا ذکر حدیث نبوی میں

حدیث شریف میں محنت یعنی مزدوری اور علی یعنی انسان کے خود اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی بڑی عظمت و فضیلت وارد ہوتی ہے۔ مثلاً بخاری میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما یعَصَّ اللَّهُ نَبِيٌّ الْأَرْجُحُ الْفَنْمُ فَقَالَ اَصْحَابُهُ وَانْتَ؟ قالَ "نَعَمْ كَنْتُ اَرْجُحَ عَلَى قَرَارِي طَلَاهُ مَلَكَةً" یعنی اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا جس نے اُبُرت پر بھیڑیں نہ پڑائی ہوں۔

صحابہؓ نے (متوجه ہو کر) سوال کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی یہ کام کیا ہے؟ اس کا جواب بُنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع و انکسار بھی نمایاں طور پر جھلک رہا ہے:

"میں تو چند قراریط کے عوض (چند ٹکوں کے عوض) کو کے لوگوں کے جاؤ پر یا کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ اُبُرت یا مزدوری پر دوسروں کے لیے کام کرنا ہرگز باعثِ نذامت یا موجبِ شرم نہیں ہے۔ اس لیے کہاگرچہ یہ تو سلامات میں سے ہے کہ جو شخص خود اپنے سرماستے سے کام کر رہا ہو خواہ وہ پچھا بڑی ہی لگاتا ہو اس کے لیے کسی احساسِ گفتگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جبکہ انسان کبھی اور کے لیے اُبُرت پر کام کرنے میں یقیناً عارِ محسوس کرتا ہے لیکن بُنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ میں خود اُبُرت پر دوسروں کیلئے کام کر رہا ہوں۔ لہذا یہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے جس پر انسان کسی بھی دربے میں نذامت یا شرم محسوس کرے۔"

حضرت مُوسَى بیکشیت ابیر

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اُبُرت پر کام کرنے کا ثبوت

یعنی میں کی بستی کے باہر کنوں پر میچنے تو قرآن مجید نے ان کی اُس وقت کی بے چارگی اور دینیوی اعتبار سے بے دلیل ہونے کی کیفیت کا نقشہ کھینچنے کے لیے ان کی دعا کے لیے العاذ نقل فرمائے ہیں کہ رَبِّ إِنَّمَا أَنْزَلَتْ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (القصص) ”پروردگار! جو خیر بھی تو یہی بھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں۔“ یعنی یہی حالت اس فتیہ و مکین کی ہے جسے ایک پیسہ بھی دیا جائے تو وہ اسے نہیں ٹھکلتا، بلکہ شکریہ کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ تو یہی وہ الفاظ جو اللہ کے ایک جلیل القدر رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے۔ وہاں جب اللہ تعالیٰ نے یہ صورت پیدا فرما دی کہ شیخ میں کی صاحبزادیوں نے ان کی جس جسمانی قوت اور اخلاقی عصمت و عفت کا پیشتم سرمشادہ کیا تھا اس کی بنا پر انہوں نے اپنے والد سے سفارش کی کہ یا ابتدأ اشتاجرْهُ زَانَ حَيْزَرَ مِنْ اشتاجرْتُ الْقَوْيِيَّةِ الْأَمِينِ (القصص)، یعنی اباجان! بہترین شخص جسے آپ اُجہت پر کام کرنے کے لیے رکھیں تو یہ بھی ہونا چاہیے اور امین بھی، اور دونوں صفات اس شخص میں موجود ہیں۔ اور شیخ میں نے آگے بڑھ کر اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے نکاح کی پیشکش حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کر دی تو آنھیا دس برس کی مزدوری ان کا مهرقرار پایا اور حضورؐ کا ارشاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصمت و عفت کی حفاظت اور اپنا ہیئت بھرنے کے لیے آنھیا دس سال مسلسل مزدوری کی۔

”إِنَّ مُوسَىً أَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانَ سَنِينَ أَوْ عَشْرَ عَلَى حِفْظِهِ فَرَحْهَهُ وَ

طَعَامَ بَطَنَهُ“ رواہ الحذرون ابن ماجہ۔

حضرت راؤ داؤد اور عمل یہ | اسی طرح بخاری ہی کی ایک اور حدیث کا

مِعْدَادْ بْنُ مَعْدِدِ يَكْرَبْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ دَأْرَمْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ“

(ترجمہ) کسی شخص نے اس سے بہتر روزی نہیں کھائی جس نے اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھائی اور اللہ کے نبی داؤد اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھاتے تھے۔

ناصر الدین محمود اور اونچے سب عالمگیر | اور یہی بات ہمیں اپنے ماضی قریب کی روایات میں بھی نظر آ جاتی ہے۔

ناصرالدین محمد اور اورنگ زیب جیسے بادشاہ اسی برصغیر میں گزرے ہیں جنہوں نے شاہی خزانے سے کوئی استفادہ کرنے کی بجائے خود محنت کر کے اپنی گزہ اوقات کا سامان مبیا کیا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ یہ باتیں سطحی نہیں ہیں بلکہ اپنے اندر گھرا تی لیے ہوتے ہیں۔ اگر یہ باتیں ہماری فکر و سوچ میں سرایت کر جائیں تو ایک عظیم انقلاب واقع ہو جاتے۔

اہمترت کی ادبی میں عجلت

کی جانب جو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کشون کے حقوق کے سلسلے میں دی ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے تو ابن ماجہ کی وہ مشہور حدیث آتی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عروہ ان العاص (رضی اللہ عنہما) ہیں۔ (یعنی) "وَقَوَا الْأَجِيرُ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلْ عَرْقَةً"

(ترجمہ) "مزدور کو اس کی اجرت ادا کر دو اس سے پہلے کہ اس کا پیشہ خشک ہو۔"

ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک

سلوک کے سلسلہ میں امام بخاری اور امام سلمہ نے حضرت معمور بن سوید سے روایت کی ہے۔ جس میں اصل واقعہ تو حضرت ابوذر غفاری کا بیان ہوا ہے لیکن ضمناً بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل اور دامگی ہدایات بھی نقل ہو گئی ہیں۔

حضرت معمور بن سوید بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت ابوذرؓ کو ان کے ایک تلام کے ساتھ دیکھا کہ دونوں نے بالکل ایک ہی طرح کا حل پین رکھا تھا اس پر انہوں نے (حضرت معمور نے) پوچھا: آخڑاً آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس پر حضرت ابوذرؓ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو گالی دی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سرزنش فرمائی اور ارشاد فرمایا: "هم اخوانکم جعل اللہ تحت ایدیکم" یعنی یہ تمہارے ہی بھائی ہیں، انسان ہیں، آدم اور حوتا کی نسل سے ہیں۔ اللہ نے انھیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔

اس کے بعد آپؐ حکم دیتے ہیں: "فمن کان اخوه تحت یہ دھ فلیط عِمَّه مُتا

یا کل و لئینیشہ ممایلیں ولا تکفرہم ما یغلبہم فان کافرتمہم فاعینہم "جس شخص کے ماتحت اللہ نے کسی اور شخص کو کر دیا ہو تو اسے چاہیے کہ جو کھانا وہ خود کھاتا ہے اسے بھی کھلاتے، جو خود پہنتا ہے اسے بھی پہنائے۔ ان پر اتنا بارہہ ڈالوں جس سے وہ دب کر رہ جائیں اور اگر ایسی مشقت ڈالنی لازم ہی ہو جائے تو خود بھی شرکیک ہو جاؤ اور ان کی مدد کرو۔"

سوال کی مذمت اور محنت مزدوری کی ترغیب

بیان بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح

سوال کرنے کی بھارتے محنت مزدوری کر کے پیٹ پالنے کی ترغیب دلائی ہے وہ بھی پیش نظر رہے: لان یا خذا حکم احبلة ثم یاق العجل فیاق بخزمۃ من حطیب علی ظهره فیبیعها فیکف بھا وجہہ خیرلہ من ان یستال اعطوه او منعوه (بخاری عن زیر بن العوام) "تم میں سے کسی شخص کا رسی لے کر پہاڑ پر پلا جانا اور پھر لکڑیوں کا گھٹہ پیٹھ پر لاد کر بیچنا اور اس طرح اپنے چہرے کو (یعنی عربت نفس) بچانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے اور وہ چاہے تو اس کو کچھ دے دیں اور چاہے تو خالی ہاتھ لوٹا دیں۔"

تو یہیں وہ اصول جو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحتوں کے بارے میں وضع فرمائے ہیں اور یہی ہیں وہ اخلاقی تعلیمات کہ جب تک وہ کسی معاشرے میں بالغ موجہ نہ ہوں تو محض کوئی خشک تاقافنی ڈھانپہ، خواہ اس کی کتنی ہی پیروی کیوں نہ کر لی جائے، معاشرے میں وہ برکات پیدا نہیں کر سکتا جو اسلام کی منشا ہیں اور جن کی ہم توقع رکھتے ہیں۔

اب میں اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ مسئلہ بہت مبہجیدہ ہے کیونکہ ایک تو اسکا تعلق نظام اقتصادی کے ساتھ ہے اور دوسرا یہ کہ یہ کوئی الگ تھلک مسئلہ نہیں ہے بلکہ انسانی اجتماعیات کے تمام پہلو یعنی سماجی، سیاسی اور معاشی مل کر ایک ناقابل تقسیم وحدت پختے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو عیلانہ کر کے اس پر غور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک فلسفہ زندگی اور نظریہ حیات کی بنیاد پر جو نظام حیات وجود میں آئے گا اس کا اپنا ایک سماجی نظریہ ہو گا اور اسی کے ساتھ مناسب رکھنے والا ایک معاشری

نظام وجود میں آئے گا اور اسی نوعیت کا سیاسی فتحاً پنج بھی ترتیب پائے گا اور سب مل کر ایک Organic whole بن جائیں گے، لہذا ان میں سے کسی ایک جزو کو نکال کر اس کی کسی اور نظام کے ساتھ پیوند کاری ناممکن العمل فعل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو اصطلاحات مستعمل ہیں مثلاً اسلامی جموریت اور اسلامی سوشلزم، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اسلام کے ایمانیات، عبادات اور اخلاقیات لے کر دوسرا نظم ہائے زندگی کی عمل تشكیل کے مابین پیوند کاری کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک یہی اصل معناط ہے۔ اسلام کی بنیاد اپنے ایک نظریے پر ہے جسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ اس جزو پر اگر تنا کھڑا ہوگا تو اس سے نکلنے والی تمام شاخیں باہم مربوط ہوں گی لیکن اگر وہ بروکر نہ ہو یا اس بروکر کا بحیثیت بڑ سے سے وجود ہی نہ ہو تو کسی بھی مصنوعی طریقے سے پیوند کاری کر کے اسلام کی برکات حاصل نہیں کی جاسکتیں۔

ایمان کیا ہے

خدا اور اس کے رسول پر اس یقین کے ساتھ ایمان کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا اور جو راه اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھکائی اس پر چلے یہی اس زندگی اور آخرت کی زندگی میں کامیابی نہیں اور اس بات کا یقین کہ آخرت میں ہمارے عمل کا نیک اور بُرائی کی صورت میں بدل ٹھے گا یہ یقین ہی ایمان کی وہ بنیاد فراہم کرتا ہے کہ ہماری یہ دنیوی زندگی ہی حوف آخر نہیں بلکہ اصل زندگی توموت کے بعد کی ہے اور انسان کا اصل مسئلہ بعد الموت زندگی سے متعلق ہے۔ رہی اس دنیا کی تاپائیدار زندگی، تو یہ فانی ہے، عارضی ہے، اس کی کوئی جیشیت نہیں، اور الگ کچھ ہے بھی قونہ ہونے کے برابر۔ ایمان کی یہ دو بنیادیں قرآن مجید کی اس ایک آیت میں سوچی ہوئی ہیں، إِنَّمَا يَنْهَا رَاجِحُونَ دَرَالشَّرِّ هِيَ ہمارا بیداً وَ مَعَادٌ ہے، ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں) گویا یہ ایک سفر ہے۔ جب فی الواقع ایمان کی یہ دو بنیادیں قائم ہو جائیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ“کن فی الدینا کانک غریب اور عابر سبیل” (الحادیث) کے مصدق ایک “ہبھی” یا راہ چلتے مسافر کی طرح زندگی ببر کرنے کا سلیمان آ جاتا ہے۔ راہ چلتے مسافر کو اس راہ گزر سے جس قدر دپھی ہوتی ہے مومن کو بھی اس دنیا سے اتنی ہی دپھی ہوتی ہے۔

اسلامی نظام کا وجود

اس وقت دنیا میں بالغفل تودہ ہی نظام ہے۔ میشٹ موجود ہیں یعنی سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت، رہا اسلام کا نظام میشٹ، تودہ دنیا کی یک ایج زمین پر بھی بالغفل قائم نہیں ہے، اس کا وجود تو صرف ہمارے ذہنوں میں ہے یا ہماری زبانوں کی فوک پر یا اسی قبیل کی چیز ہے۔ قلم جس تک یہ تصور محدود ہے۔

اسلام ب مقابلہ اشتراکیت و سرمایہ داریت

(Communism)

اور سرمایہ داریت (Capitalism) دونوں بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک مشرق ہے تودوسرا مغرب، لیکن اسلام کے مقابلے میں ان دونوں میں ایک قدر مشترک ہے۔ یہ آپس میں تو متضاد اور مقابل ہیں لیکن اسلام کے مقابلے میں اپنے فکری پیش منظر کے ساتھ ایک ہی تنہ کی دو شاخیں ہیں۔ اسلام جہاں ماذیت کے مقابلے میں روحاںیت اور اس دنیوی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی دعوت دیتا ہے یہ دونوں نظام صرف مادہ پرستی کی بنیاد پر قائم ہیں — یہ فلسفہ ماذیت ہی تھا جس نے ایک قدم آگے بڑھا کر جدلی ماذیت (Dialectical materialism) کی شکل اختیار کر لی اور وجود میں آیا۔

اسلام کا معاملہ ان دونوں سے مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنی ہی قائم کردہ بنیادوں پر اپنے مکمل ڈھانچے میں قائم ہو سکتا ہے اور کسی قسم کی پیوند کاری قبول نہیں کرتا۔ لہذا جب تک وہ نظریاتی بنیاد استوار نہ ہو اسلامی نظام کے ڈھانچے کا خیال گھوڑے کے آگے گاڑی باندھنے کے متلاف ہو گا۔ پہلے نظریاتی بنیاد کا استحکام ضروری ہے اس لیے کہ اسلام تو "ایمان" ہی کی بنیاد پر قائم ہو گا۔ اس کے علاوہ کسی اور ہر ٹیکا بنیاد پر اس کے قیام کا تصور ہی بے کار ہے۔

اسلام میں عدل و قسط کی اہمیت

(ایمان کو استوار کرنے کے ساتھ ساتھ)

اس بات سے انکار بھی ممکن نہیں ہے کہ اسلام نے عدل و قسط کے قیام کو بھی بنیادی اہمیت دی ہے۔ شریعت، ازالی کتب اور بعثت رسول کا مقصد نیز دین کا پورا ڈھانچہ

ان سب کا مرکزی خیال قیامِ عدل و قسط ہے یعنی عدل و انصاف پر مبنی ایک نظام حیات کا قیام گویا اسلام و ایمان کا بنیادی تعاون ہے۔

چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت "قَائِمًا بِالْقِسْطِ" (النصاف کا قائم کرنے والا بھی آئی ہے۔ اس کے علاوہ ارشادِ خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُونُوا قَوَامِيْنَ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ
بِالْقِسْطِ شَهَدَاءِ اللَّهِ (الناس)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُونُوا قَوَامِيْنَ
لِلَّهِ شَهَدَاءِ بِالْقِسْطِ۔ (المائدہ)
اے اہل ایمان! اللہ کی خاطر راستی پر قائم ہونے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو۔
یہ ایک ہی بات کو دو پیر ایسوں میں بیان کیا گیا ہے لیکن اس خوب صورت انداز میں کہ رُوح وجد کرنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْبَيْتَنَاتٍ وَأَنْزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْيَمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ۔ (الحمدیہ)
ہم نے بھیجے اپنے رسول بیانات دے کر اور ہم
نے آناری ان کے ساتھ کتاب لے رہیں ان تاکہ
لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں۔
اور کوئی میں ایمان رکھتا ہوں اس پر جو
یکاپ و امرت لاغدیل بیسنکم اللہ نے مجھ پر آئرا اور مجھے حکم ہوا ہے کہ
میں تھمارے مابین عدل کروں۔ (الشوری)

چنانچہ فاتح ایران حضرت سعدیں ابی و قاصیؑ سے جب ایرانیوں نے پوچھا کہ آپ
ہم پر کیوں حملہ اور ہوتے تو آپ نے جواباً فرمایا:

إِنَّا قَدْ أَرْسَلْنَا لِتَخْرِجِ النَّاسَ
بِهِمْ بَحِيجَةً كَيْفَ كَيْفَ هُمْ لَوْغُونَ كُوْجَهَاتِ
مِنْ ظُلْمَاءِ الْجَهَالَةِ إِلَى النُّورِ
الْأَيْمَانَ وَمِنْ جُورِ الْمُلُوكِ
إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ۔

اسی طرح حضرت ابو یکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت خلافت کے بعد جو خطہ ارشاد فرمایا وہ اسلامی مملکت کے اصول متعین کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: تم میں سے ہر قوی یہرے نزدیک ضعیف ہے جب تک اس سے حق وصول نہ کروں اور تم میں سے ہر

ضیف میرے نزدیک قوی ہے جب تک اس کا حق نہ دلا دوں۔ ”گویا نظامِ عدل و قسط کا قیام، اسلامی ریاست کا بنیادی مقصد ہے۔“

امتیازی سلوگن

ہر نظام میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے اس نظام کا امتیازی سلوگن (Slogan) بن جاتے ہیں۔ میں آزادی (Freedom) کی تحریر لے گی۔ یہ گویا ان کے فکر کی بنیاد اور مرکز و محور ہے اس طرح اشتراکت (Socialism) میں مساوات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس میں نوع انسانی کے لیے کشش ہے، اس مرحلے پر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ دونوں اعلیٰ قدریں ہیں۔ آزادی بھی ایک اعلیٰ قدر ہے اور مساوات بھی ان کے مقابلے میں اسلام نے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے ”عدل“ کا تصور دیا ہے، وہ آزادی اور مساوات کے درمیان بھی عدل کا راستہ تجویز کرتا ہے۔ نہ تو آزادی اس قدر بڑھ جائے کہ مساوات کو ہڑپ کر جانے اور نہ مساوات کا ہٹا کھڑا ہو کر آزادی جیسی اعلیٰ اقدار سے انسانی معاشرہ کو محروم کر دے۔ آزادی کی قیمت پر مساوات اور مساوات کی قیمت پر آزادی“ اسلام ان دونوں کے حق میں نہیں ہے۔ اسلام عدل چاہتا ہے اور یہی وہ لفظ ہے جس کو اسلام کا امتیازی Slogan قرار دیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دُنیا میں نظامِ عدل کے قیام کی غرض آخر کیا ہے؟ اس طرف انسانی ابہتیعیات کے بہت بڑے عالم حضرت شاہ ولی اللہؐ نے توجہ دلائی ہے وہ فرماتے ہیں :

”قرآن حکم کی واضح تعلیمات کے مطابق مسلم معاشرے کو حکم دیا گیا ہے کہ نہ اسراف کیا جائے نہ تبذیر بلکہ راہِ احتمال اختیار کی جائے۔ اسراف کا مطلب ہے حد سے زیادہ خرچ کرنا اور تبذیر سے مراد ہے بے جا اور فضول خرچ کرنا۔“

- ① وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلَا هُنْ فُرُوا إِثْمًا
اور کھاؤ پینو اور لا هنْ فُرُوا، ایثْمًا
لَيُجْبِي الْمُسْرِفِينَ (الاعراف)
- ② وَلَا تَبْذِيرٌ بَذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا رَاغِبِانَ الشَّيْطَانِينَ (بیت اسوالیں)
اور بے جا خرچ نہ کرو، بیشک بے جا حشرے کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔
- ③ وَلَا يَخْفَلْ يَدُكَ مَغْلُولَةً إِلَى عَنْقِكَ
اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ رہ

رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے ورنہ
تو بیٹھ رہے گا الزام کھایا ہمارا ہوا۔

مَلُونًا تَحْسُورًا - (بخاری، اسوانی)

۲) وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْقَمُوا لَمْ يُشِرِّفُوْا
اور (جن کے بندے) وہ لوگ ہیں جو حسرے
کرتے ہیں تو فضول نہیں کرتے اور نہ تنگی کرتے
ہیں بلکہ (ان کا خرچ) ان دونوں کے درمیان
اعتدال پر ہوتا ہے۔

معاشرے کے تین معروف معیارات

۱) رفاهیت بالغہ یعنی عیاشانہ معیار زندگی جس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی چیزیں پسند کی جاتی ہے، اس طرح حد سے زیادہ بلکہ بے جا خرچ کیا جاتا ہے اور دولت کو ضائع کیا جاتا ہے۔
ب) رفاهیت ناقصہ یعنی پست معیار زندگی جس میں زندگی کی ضروریات بھی پوری طرح حاصل نہیں ہوتیں اور جانوروں کی سی زندگی پر کسی جاتی ہے۔

ج) رفاهیت متوسط۔ یعنی درمیانہ معیار زندگی جس میں زندگی کی ضروریات متوسط درجے میں حاصل ہوتی ہیں اور انسان اتنی فراغت پاتا ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی بھائی کے لیے بھی کوئی کام کر سکے اور خدا کو بھی یاد کر سکے۔

اللہ تعالیٰ نے رفاهیت بالغہ یعنی عیاشی کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور ایسی معاشرت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے جس سے انسان دنیا کی طلب کے اندر ہی الجھ کر رہ جاتے اور معیشت کی بارکیوں میں اتر جاتے اور اس کے اندر انتہائی تعمت اور غلو کرنے لگے۔
چنانچہ رشیم، سونے چاندی کے بڑن اور بھاری زیورات مثلاً کنگن، گلوبند، ہار، طوق، پازیب وغیرہ کا استعمال اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں کیونکہ یہ چیزوں انسان کو اسفل الساقین میں پہنچا دیتی ہیں اور انسانی انکار کو مختلف قسم کی بارکیوں میں ابھا دیتی ہیں۔ رفاهیت کی اصل حقیقت یہ ہے کہ معاشرتی زندگی میں اچھی چیزوں طلب کی جائیں اور ادنی سے اعہن کیا جائے۔ لیکن رفاهیت بالغہ یہ ہے کہ ایک ہی چیزوں میں سے سب سے اعلاً کا انتخاب کیا جائے۔

”رفاهیت ناقصہ عموماً ان لوگوں کا معیار زندگی ہوتا ہے جو آبادیوں سے دور پہاڑی

علاقوں میں تنہہ ہر اور این کل جہا ای وحشتوں جانی و ایک کالیسیٹ ہے تاروچھے شہزادوں کے علاقوں میں اکثریت صرف دال روٹی کے حصوں میں سرگردان ہو۔ معاملہ جب یہ ہو جائے کہ انسان بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے کمر توڑ دینے والی محنت کرے اور پھر بھی اس کی ضروریات پوری نہ ہوں تو انسان کا جیوانی سطح پر آجانا کوئی بعید از قیاس بات نہیں۔ اس لیے اسلام نظامِ عدل و قسط قائم کرنا چاہتا ہے، نہ صرف قانونی نظام بلکہ سماجی عدل بھی۔ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی صرف حاصل کریں، اس سے نو لگائیں، اس سے محنت کریں اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کریں اور یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ انھیں اس کے لیے فرصت ہو، وقت ملے اور یہ نہ کہ سکیں۔

حکم بخوبی سے بھی دلغیریب ہیں غم روزگار کے

اسلام کے معاشی نظام کے دریخ اقتصادی نظام قائم کرنا چاہتا

ہے؟ اس کی وضاحت سے قبل اس حقیقت کا انعامار ضروری ہے کہ اسلام کے معاشی

لے جنتہ اللہ بالمال

نظام کے دو رُخ یا پہلو یہں یا یوں سمجھیے کہ دو حصے ہیں مگر اس طرح کہ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک مکمل نظام کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ دونوں کا اپنا ایک فلسفہ ہے، اپنا نظریہ ملکیت اور نظریہ حقوق ہے اور اسی طرح دونوں کا اپنا نظریہ قدر زائد ہے۔ معاشری نظام میں اہمیت رکھنے والی تمام چیزیں ان دونوں نظاموں میں جلا جدایاں اور اپنا جدالگار فلسفہ رکھتی ہیں۔ سورہ لہجت کی آئیہ بارکہ

مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَكْتُقِيلِ بَيْنَهُمَا
بَرْزَخٌ لَا يَنْفَعُونَ۔

دو توئیں جو بابر چل رہی ہیں مگر ان کے درمیان ایک غیر مریٰ پرده حائل ہے جو انھیں باہم مرمغ نہیں ہونے دیتا۔

کے مصدق اسی شکل میں یہ دونوں نظام موجود ہیں اور اسلام جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان دونوں کے میں امتراد سے پیدا ہوتا ہے۔

خلط مجتہ ہمارے ہاں خلط مجتہ ہوتا ہے اور ہر شخص اپنے نقطہ نظر کے مطابق اسلام کے معاشری نظام کی تشریع و تعمیر کرتا ہے۔ جو لوگ سو شرکم اور کمبو نرم سے متاثر ہیں وہ انفرادی ملکیت کی کامل نفی کرتے ہیں۔ صدور نے زایدہ ہر چیز چھین لینے کی بات کرتے ہیں اور دوسرا پہلو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، مثلاً قانون و راست بھی تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام میں بھی بجزی مساوات کی نفی کر دی گئی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ جائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت پر تصرف بلکہ ولاشتاً جائیداد کی منتقل کا حق بھی تسلیم کیا گیا ہے۔

دوسری طرف وہ لوگ جو کمبو نرم سے خارکھاتے ہیں تو اسلام کے قانونی نظام کا دم بھرتے ہیں جبکہ اس کے روحاںی نظام کو نظر انداز کرتے ہیں۔ انفرادی ملکیت کو اس قدر نمایاں کرتے ہیں کہ ایک استھانی سرمایہ داران نظام کا نقشہ آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔

حضرت ابوذر غفاری کا طرز عمل یہ دونوں قسم کے نقطہ ہائے نظر کسی غلط فہمی کی بنیاد پر بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ بھی اسلام کے قرآن اول میں بھی یہ غلط فہمی پیدا ہوئی،

چنانچہ حضرت ابوذر خفاریؓ نے جن پر زہد اور فقر کا غلبہ تھا "آئے کنز" کو ظاہری معنوں پر محول کیا اور اس راستے کا اختصار کیا کہ سوتا چاندی اور سرایہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پاس لکھنا حرام ہے۔ اس سے ایک بڑا مستعلہ پیدا ہو گیا۔ خلافتِ راشدہ نے ان کی اس راستے کو انتہا پسندانہ قرار دیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں انھیں مدینہ بردا کیا گیا اور مدینہ سے باہر ہی ان کا انتقال ہوا۔ ان کے زہد کی شدت کا یہ عالم تھا کہ جب انتقال ہو رہا تھا تو صرف ان کی اہلیہ محترمہ ان کے پاس تھیں۔ گھر میں ضرورت کی چیزیں بھی تھیں مگر ان کے احساسات یہ تھے کہ ان کی موجودگی پر بھی پریشان تھے اور بار بار کتنے تھے؟ حضورؐ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے گرد سانپ اور بیکھو جمع کر لو گے اور یہ مجھے نظر آئے ہے یہ؟ "اہلیہ محترمہ نے کہا؟ کہاں ہیں وہ سانپ اور بیکھو جو ہم نے جمع کر لیے ہیں؟ تو فرمائے لگے؟ وہ بیکھو تو اے ہے، استعمال کے کپڑے ہیں اور یہ سب بیکھو ہیں؟"

یہ صحیح ہے کہ اسلام قانونی نظام سے روحانی نظام کی طرف قدم بڑھانے کا تقاضا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ انسان اس کی طرف پیش قدی کرے اور اسی باستے مناطقہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو کامل خلوص کے ساتھ لاحق ہوا، لیکن بینیتی کے ساتھ بھی یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اخلاقی و روحانی نظام کے اصول

[اسلام کے اخلاقی یا روحانی نظام کے چار اصول ہیں۔]

- ① ملکیت کی گلگلی لفظی۔
- ② انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کا کسب نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے۔
- ③ انسان کا حق اس کی جائز ضروریات ہیں۔ بعض احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں متعین فرمادیا ہے یعنی دو وقت کے کھانے کے لیے سامان، سرچھپانے کو چھت، دو جوڑے کے کپڑے اور عفت و عصمت کی حاجت کے لیے یہوی۔
- ④ اب جو کچھ انسان کے پاس نکھ رہے اسے دوسروں کی ضروریات کے وقت کر دے گو کہ قانونی طور پر اسے اس پر حق تصرف حاصل ہے لیکن اخلاقی تعاضا یہ ہے کہ وہ دوسروں کی طرف منتقل ہو۔

تو یہ اپنے طور پر ایک مکمل نظام ہے۔ اس میں نظریہ ملکیت بھی ہے اور حق کا صرف بھی۔ نیز اگر قدر زائد ہے تو اس کا صرف بھی موجود ہے۔

اخلاقی نظام میں ربوا

طور پر آیا ہے۔

۱۔ ربوا بمقابلةٍ تَبَعَ وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البغرة)

۲۔ ربوا بمقابلہ صدقات اور تزریقی نفس کے واسطے خرچ کرنے کے جیسے "وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ سَكُونٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ" (الروم)

اسلام کی روحانی تبلیغات میں اسی سفوم کے ساتھ سورۃ البقرہ کی اس آیت میں کہ

يَعْنِي اللَّهُ الرِّبُو وَيُرِبُّ الصَّدَقَاتِ دَالِلَّهُ الرِّبُو كُوْهَنَا تَا اور صدقات کو بُرْھاتا ہے۔

صدقات کے مقابلے میں ربوا کا لفظ آیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک انسان یا شلاؤ ملازم پیشہ ادمی کی صورت پوری ہونے کے بعد کچھ سرمایہ اس کے پاس جمع ہو گیا ہے۔ اب اس فاضل سرمائے کے دو صرف ہیں، یا تو وہ اسے کسی کاروبار میں لگائے۔ اس صورت میں اس کی محنت اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اب اس اخلاقی نظام میں فاضل سرمائے سے جو رب صورتی ہوگی وہ بھی ربوا قرار پاتے گی۔ اس کا صحیح صرف یہ ہے کہ اسے محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے وہ لوگ جن کے پاس کاروبار کی بنیاد ڈلنے کے لیے سرمایہ موجود نہیں ایکس سرمایہ فرہم کیا جائے تاکہ وہ رزق حلال باعزت طبیعت سے حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ان کی محنت میں سے حصہ وصول کرنا گرفقاونی طور پر جائز بھی ہو، اخلاقی اور روحانی سلطیح پر یہ ممزون عات کی فہرست میں شامل ہو گا۔ اس یہے اس فاضل سرمائے کا صرف یہ ہونا چاہیے کہ صورت مندا اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر زیادہ نہیں تو انہیں یہ سرمایہ بطور قرض حسنہ ہی دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور معاشرے میں صاحب عزت اور صاحب حیثیت بن سکیں۔ قرآن کی اخلاقی اور روحانی تعلیم کا یہی وہ نکتہ ہے جسے اپنا کر ایک جنتی معاشرہ تشکیل دیا جاسکتا ہے۔

عفو اور قصاص

اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا فرق و تفاوت بلکہ بعض ادوات تضاد صرف معاشی تبلیغات ہی میں نہیں بلکہ دوسرے قوانین میں بھی ہے۔ شلاؤ مظلوم بدلتینے کا قانونی حق رکھنے کے باوجود معاف کر

سکتا ہے اور اخلاق اور رُوحانیت کا تقاضاً عفو و درگیری ہی ٹھے۔ جبکہ قانون قصاص لینے ہی میں خیر محسوس کرتا ہے اور اسی کی ترغیب دلاتا ہے۔

قانونی اور فقہی نظام

محنت کے تصور کو اسلام کا قانونی معاشری نظام ایک طرح کا
Controlled capitalism
ہے کہ اس میں تینوں جملی تفاضل موجود ہیں۔ اس میں بھی ملکیت
(Private ownership)

بھی ہے اور ذاتی دلچسپی بھی، اور ساتھ ہی ساتھ آزاد معیشت کا تصور بھی۔ البتہ اس میں حال اور حرام کی تغزیت موجود ہے۔ پابندی کا نہیں بلکہ حلال سے تجاوز کرنے پر ہے بلکہ قانون حق تصرف تسلیم کرتا ہے اور اپنی مرپی سے اللہ کی راہ میں دینے کا تقاضاً بھی کرتا ہے۔ البتہ جو فرض ہے مثلاً زکوٰۃ وہ جبراً و صول کر لی جائے گی۔ لیکن زکوٰۃ کے علاوہ اس پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہوگی۔ مگر ذہن میں رہے کہ اسلام نے اس قانونی نظام کو دو پہلوؤں سے حدود کا پابند کیا ہے تاکہ یہ ایک لعنت بن کر نوع انسانی پر مسلط نہ ہو جائے۔ ایک توہ خطوط متعین کیے گئے جن کی موجودگی میں سرمایہ کاری سرمایہ داری بننے سے محظوظ رہے۔ دوسری طرف آزاد معیشت میں بعض لوگوں کے آگے بڑھ جانے اور بعض لوگوں کے یتھرے رہ جانے کے امکان کو تسلیم کر کے جبری مسادات کی بجائے اس فقہ و تناوت کو بڑی حد تک ختم کرنے اور اس دریافتی غلام کو پور کرنے کے لیے راستہ تجویز کیا گیا۔ نظام زکوٰۃ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اسلام نے ایک حد فاصل قائم کر دی ہے جو بھی اس حد سے آگے بڑھ جائیں وہ مال دار ہیں اور دینے کے مکلف ہیں اور جو اس حد تک نہیں پہنچ سکے وہ مستحق اور ضرورتمند ہیں معرفت معنون میں پہنچے والوں کو اور دوسروں کو Have-nots شمار کر لیجیے۔ لیکن یہ تقسیم آپ کے اختیارات Haves کے تابع نہیں کہ آپ جسے چاہیں Have اور جسے چاہیں Have-nots بناؤ۔ بلکہ نصاب کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے کہ اتنے ادنٹ یا اتنا سونا وغیرہ ہے تو دینے والوں کی صفت میں اور اگر اس سے کم ہے تو لینے والوں کی صفت میں۔ اس تقسیم کے بعد یہ

لَهُ حِرَانٌ تَعْقِلُوا وَلَنَصْفُحُوا وَلَنَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ (التحاب)

۲۷ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حِلْوَةٌ يَا أُولَئِكَ الْأَتَابُ (البقرہ)

راصل قائم کر دیا گیا:

تو خذ من اغیارہم و ترد الى فقر، ہم یعنی اغیار سے لے کر تحقیقین میں تقسیم کی جائے گی تاکہ اس ترقی کا کسی حد تک خاتم کیا جا سکے جو معاشرے میں پیدا ہو کر بہت سی گروپیوں کا باعث بنے گی۔

ارتکازِ دولت

لیکن ایسا نہیں ہو گا کہ کچھ لوگ قر ارتکازِ دولت کر کے عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں اور کچھ لوگ ضروریات زندگی سے بھی محروم رہ جائیں۔ اسلام اجتماع و ارتکازِ دولت کا مخالف ہے، سرمائے کو گردش میں لانے کا متناقض ہے لیکن وہ سرمائے کی فطری گردش کے حق میں ہے۔ سرمائے کی مصنوعی گردش جو سرمایہ والانہ نظام کا خاصہ ہے۔ اسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ اس نے اصولاً یہ بات طے کر دی کہ :

کَيْ لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَخْيَارَ تاکہ دولت تم میں سے سرمایہ داروں کے میں نہیں۔ (الحضر) مایین ہی اُنک پھیریں نہ رہ جائے۔

جیسے ایک کروڑپتی کی بیٹھی ایک دوسرا کروڑپتی کے بیٹھے سے بیا ہی گئی۔ لاکھوں کا جیزاں گھر میں جمع ہو گیا جہاں کروڑوں روپے پہلے سے موجود ہیں۔ سرمایہ تو گردش میں آیا مگر مصنوعی انداز میں۔ اور معاشرے کو اس سے قطعاً کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور یہ سرمایہ پچھے طبقات تک منتقل نہیں ہو سکا۔ اسی طرح ایک سرمایہ دار کے بیٹھے کی سالگرہ پر لاکھوں روپے کے تھاں جمع ہو گئے۔ سرمایہ کی گردش کا عمل یا ان بھی وقوع پذیر ہوا لیکن **بَيْنَ الْأَغْنِيَاءَ** (سرمایہ داروں کے درمیان) اسلام کی منشار یہ ہے کہ معاشرے میں جو بھی ذرائع پیداوار ہیں (اور نہیں سب سے بڑا ذریعہ پیداوار ہے) ان کی منصفانہ تقسیم ہو اور ان کا حاصل پورے معاشرے میں پھیلے۔

'Controlled capitalism' کی جو اصطلاح میں نے استعمال کی ہے اب اسے 'Internally managed capitalism' کے الفاظ میں ادا کیا جا رہا ہے کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام بھی یہ بات جان پہلا ہے کہ ننگی اور عربیں سرمایہ داریت اس دور میں نہیں چل سکتی۔ اس کا کوئی مستقبل نہیں بلکہ وہ تو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔

بعقول علامہ اقبال سے

دیارِ مغرب کے بہنے والوں خدا کی بستی دکاں نہیں ہے
کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کم عیار ہوگا
تھماری تہذیب اپنے خبر سے آپ ہی خود کشی کرنے گی
جو شاخ نازک پر آشیانہ بننے گا ناپا سیدار ہوگا

کفالت عامہ

سرمایہ دارانہ نظام کی طور پر اپنے فلسفے کے ساتھ اب قابل قبول نہیں رہا۔ اس کا کوئی مستقبل نہیں اور وہ تباہی کے کنارے تک پہنچ چکا ہے۔ اس لیے اپنے تحفظ کے لیے قابل عمل اقدامات کر رہا ہے، جس کی نیاں مثال برطانوی معاشرہ میں ملتی ہے۔ وہاں ان لوگوں کے لیے جو کام نہیں کر سکتے روزگار نہ ہونے کی صورت میں الاؤٹ سفر کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست اپنے ذمے لے لیتی ہے، آزاد میہشت کا تصور بھی مجروم نہیں ہوتا اور ضرورت مند لوگوں کی کفالت کا سامان بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن غور کیا جائے تو اسلام کے نظام میہشت میں یہ اصول بوجودہ سو سال پہلے ملے کیا جا چکا ہے جہاں سرمایہ دارانہ نظام یا بے خدا معاشرہ محفوظ کیا کہ اب پہنچ رہا ہے۔ اسلام چودہ سو سال پہلے یہ بتا چکا ہے کہ کمانے کھانے کی آزادی ہے اور آگے بڑھنے کی بھی لیکن جو پیچھے رہ جائیں ان کی بنیادی ضروریات کی فراہمی معاشرہ کا فرض ہے اور زکوٰۃ و عشر کا نظام اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

کفالت عامہ کے اصول کو Collective insurance بھی کہا جاسکتا ہے اس فرق کے ساتھ کہ انسورنس خواہ کسی قسم کی ہو اسے انسان اپنی کمائی میں بچت کر کے حاصل کرتا ہے لیکن اسلام نے جو اصول وضع کیا ہے اس میں ایک طبقہ بجا تا ہے اور جمع کرتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ اس کا فائدہ بھی اُسے ہی پہنچے جس نے پہچایا اور بچ کیا ہے بلکہ ایک مال دار اور غنی ہے جو بچانا اور جمع کرتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ جو ضرورتند ہے اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور اس کی یہ کفالت نظام زکوٰۃ اور عشر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اب آئیے اس کے فقتوں اور قانونی نظام میں کمائی میں حلال و حرام کی قیود کی طرف۔

حلال و حرام کی حدود

جو طوفان بدریسری برپا ہوتا ہے اور انسانیت کی جیوانیت میں تبدیل کامل شروع ہوتا ہے اس کا سہر باب کیا جاسکے۔ اس کے بعد ان اقدامات پر نظر ڈالیے جو قرآن مجید اپنے معاشری نظام میں وضع کرتا ہے اور عرش کیجیے۔ لیکن یہ وضاحت بہر حال ضروری ہے کہ قرآن مجید معاشریات کی کتاب نہیں ہے کہ اس نے عنوانات قائم کر کے معاشری اصطلاحات پر بحث کی ہو تو ایک ایک نکتے کی وضاحت ضروری سمجھی گئی ہو۔ لیکن کتاب بہدایت ہونے کی بنیاد پر قرآن مجید میں زندگی کے اس پہلو میں بھی رہنمائی کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے جو بہدایات دی ہیں ان سب کا بنیادی فلسفہ ہے کہ اسلام اپنے قانونی نظام میں بھی زیادہ سے زیادہ محنت پر انحصار کرتا اور سرمایہ کو کم از کم اہمیت دیتا ہے۔ محنت اور سرمائی کے استراج سے معاشری دھانچو کی تشكیل کو وہ تسلیم کرتا ہے لیکن محض سرمائی کی بنیاد پر بیزرنگت کے کامی کو وہ اچھا نہیں سمجھتا۔ اس کے نزدیک اصل بیزرنگت ہے سرمایہ نہیں مثلاً اس کی بدترین صورت یہ ہے کہ کسی کاروبار میں سرمایہ لگانے والا شخص منافع میں شرکیہ ہو، لیکن نقصان میں حصہ دار نہ ہو اور منافع کی بھی متین شرح یعنی پر مصہر ہو تو یہ ایک انتہا پسند ناطح ہے جس میں محض سرمائی کی حیثیت سے کامی کا حقدار بنا۔ اس مثال سے پھر امور سامنے آتے ہیں۔

(۱) سرمایہ بیکیثت سرمایہ منافع کا مستحق ٹھہرا (۲) اپنے تحفظ کی ضمانت (۳) نقصان میں عدم شرکت (۴) لفغ کی ایک متین شرح۔

جان یہ چاروں صورتیں جمع ہوں تو یہ روپا ہے۔ اور اسلام نے اپنے نظام معیشت میں اس کی جڑکاٹ دی ہے۔ زنا ثراب غرض کسی بُرانی کے بارے میں قرآن مجید نے وہ سخت لمحہ اختیار نہیں کیا جو روپا کے بارے میں اختیار کیا ہے۔ روپا کے بارے میں اس کی آتش غضب یوں بھروسہ کتی ہے۔

اے ایمان والو! اللہ سے درُو اور جرسو د ک
یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّقُوا اللَّهَ
كُسی کے ذمہ ہے پھوڑ دو۔ ہاں اگر نہیں کوئے
وَذُرُّوا مَا يَعْيَى مِنَ الرِّبْعَوَانُ
تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هٰ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا

کَلَّا تُؤَاخِذُ بِمِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ (البقرة) جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس قدر سخت وعید کسی اور معاشرے میں نہیں آتی اور اس کی بہترین وضاحت اور ہماری ذہنی سطح کے مطابق بات قرآن کے مزاج شناس اور اللہ کے پایا سے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمائی :

الرَّبُّوْا سَبْعَوْنَ جَزَءًا أَيْسَرُهَا
ان يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّةً
هُكَا يَہٗ کَوْنَى شَخْصٍ اپْنِي مَانَ سَے
نِكَاحٌ کرَے۔ (بیہقی)

یہ انداز کھلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تشبیہ کیوں اختیار کی لیکن غور کریں تو اس کی محکمت روز روشن کی طرح ہمارے سامنے آجائی ہے۔ بعض چیزوں ایسی ہیں جن سے ہمیں طبی طور پر نفرت ہے اور بعض چیزوں اس کے ہم پا یہ براحتی ہیں لیکن ہم انہیں جعلی یا طبی طور پر براحتی نہیں سمجھتے جب کوئی شخص انہیں پہلی چیزوں کے مقابلے میں لے لائے گا ان سے تشبیہ دے کر بیان کرے گا تو حقیقت واضح ہو گی۔ یہی محکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں پوشیدہ ہے۔ تم شاید اسے جنم دیکھو یہ کہ کہ خود کو مطلع کرو کہ سودے لیا تو کون سی براحتی ہو گئی یہ دراصل ماں سے نکاح کرنے کے مترادف ہے۔ گویا ہمارے نظام شریعت میں بدترین براحتی ربا قرار پاتی ہے۔ نظام سرمایہ داری میں سب سے زیادہ اہمیت ہی سراتے اور اس کے تحفظ کو پہنچانے اور اسلام نے اسے ربا قارہ دے کر اس کی بڑھتی کاٹ دی ہے۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ جس میں سرمایہ مارکیٹ کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے اثار چھاؤ کا باعث بنتا ہے۔ ایک شخص دس لاکھ روپے سے اپنی مالی ہیئت کا تعین کرتا ہے۔ اب وہ شے کھیلتا ہے۔ زبانی کلامی ہی خریدا اور بیع دیا۔ لیا اور دیا۔ صرف اپنی مالی ہیئت کی بنا پر مارکیٹ میں اثار چھاؤ پیدا کرتا ہے ورنہ حقیقت میں نہ کچھ لیتا ہے اور نہ دیتا ہے۔ کبھی یکدم مال خرید کر قیمتیں چڑھا دیتا ہے اور کبھی مال رسیز کر کے قیمتیں گھٹا دیتا ہے۔ یہ سراتے کا کھیل ہے۔ سرمایہ منڈی سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ کراچی شاک ایکس پینچ میں یہ دچکپ صورت حال دیکھی جاسکتی ہے کہ نظری طور پر سودے ہو رہے ہیں نہ کچھ لینا اور نہ کچھ دینا۔ پاگلوں کی طرح یعنی پکار ہوتی ہے اور سیٹھوں، ساہوکاروں کو اطلاع دینے کے لیے دوڑتے ہیں۔ یہ منڈی کا اثار چھاؤ ہو رہا

ہوتا ہے اور سرمایہ داروں کا کھیل۔ اسی صحن میں ان شوریں آتی ہے۔ ان سب پیروزیوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ ان شوریں میں دو پہلو ہیں جو حرمت یہی ہوئے ہیں ایک تو جو ہے اور دوسرا سرمائی کے تحفظ کی ضمانت۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھئے۔ ایک شخص دس لاکھ روپے سے ماچن بنانے کا کارخانہ قائم کرتا ہے۔ اور دس لاکھ روپے کی ان شوریں کرتا ہے۔ اس کا سرمایہ آفاتِ سماویہ کی زدیں ہے۔ کوئی اتفاقی حادثہ آگ یا سیلا ب اس کارخانے کو تباہ کر سکتا ہے۔ لیکن وہ اپنے سرمائی کا تحفظ یوں کرتا ہے کہ اس کی ان شوریں کرواتا ہے اور دُوسرا ظلم یہ کرتا ہے کہ یہ تحفظ اپنی جیب پر بوجھ ڈال کر حاصل نہیں کرتا بلکہ اس کا سالانہ پر یہی بھی جو وہ ادا کرتا ہے لاگت میں شمار کرتا ہے۔ ماچن کی ایک ڈبی پر وہ پر یہیم کی لاگت ڈالتا ہے اور ضرورتمند سے اس کی قیمت وصول کرتا ہے، صرف اس لیے کہ سرمایہ اس کا محظوظ ہو جائے کسی حادثے کی صورت میں جہاں تک اجتماعی مفاد کا تعلق ہے کہ ہمارا ایک ملک، ایک قوم ہے جس کے مادی مفادات مشترک ہیں۔ تباہی تو آگئی اور دس لاکھ روپے کا سرمایہ ملکی سلطن پر ضائع ہو گیا۔ لیکن سرمایہ دار اس نقصان میں سے ایک پانچ بھی برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں اور خریدار کا خون پھوس کر اپنے سرمائی کا تحفظ کرتا ہے یہ سرمایہ داروں کی اولاد بھی کا نظام ہے جو اپنے سرمائی کا تحفظ کر رہے ہیں اس کی حرمت کے لیے اسلام نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے: **کَنَّ لَّهُ يَكُونُ ذُؤْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مُنْكَرٌ**۔

ایک دائرہ اور بھی ہے جس میں بعض چیزوں یہ طال اور بعض حرام ہیں اور بعض وہ یہیں جن کی حلت و حرمت میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو ہم ایک ہی گروپ میں لاتے ہیں۔ ایک شخص محنت کر سکتا ہے۔ صحت مند اور معنیت ہے لیکن اس کے پاس سرمایہ موجود نہیں۔ اس کے بر عکس ایک دوسرا شخص ہے جس کے پاس سرمایہ موجود ہے۔ یہ دونوں مل کر کاروبار کرتے ہیں۔ ایک شخص سرمایہ فراہم کرتا ہے اور دوسرا اس میں اپنی محنت شامل کرتا ہے۔ اس محنت اور سرمائی کے امتحاج کو مضاربہ کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں۔ جس طرح طلاق جائز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز۔ اسلام کا تعاقباً یہ ہے کہ جس کے پاس صرف اس قدر سرمایہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت ہی پوری کر سکتا ہے تو وہ

خود کار و بار کرے اور اپنی صوریات پوری کرے لیکن اگر اس کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ آمدی موجود ہے مثلاً وہ طازمت کرتا ہے تو اس کے پاس جو صورت سے زائد سرمایہ ہے وہ اپنے مجبور بھائی کو دے دے اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی محنت میں سے حصہ نہ بنائے۔

مختاربنت میں بھی شرط رکھی گئی ہے کہ نقصان کا پورا بوجھ سرمائے پر پڑے گا اور محنت کش ایک پائی کے نقصان میں بھی شرکیں نہیں ہو گا۔ اسلام نے محنت کے تحفظ کو منافع کا جائز ذریعہ قرار دیا ہے اس صورت میں وہی مختاربنت جائز ہو گی جس میں نقصان کی پوری ذرداری سرایہ فراہم کرنے والا شخص برداشت کرے۔ اور منافع میں وہ محنت کش کا سائبھی ہو۔ لیکن یہ وضاحت دوبارہ کر لی جائے کہ اسلام کے نزدیک یہ عمل بھی پسندیدہ نہیں۔ اس کا پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ اصل زائد سرمایہ رکھنے والا شخص یہ سرمایہ کسی دوسرے ضرورت مند مسلمان بھائی کو بطور ضریب حصہ دے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے اور اس کی خوشحالی قومی خوشحالی میں حصہ دار بنے۔ اس سے استفادی نہیں میں حسن پیدا ہو گا۔ اگر آپس کے مقابلات مجبوری میں طے پائیں تو یہ حسن کہاں پیدا ہو گا۔ قرآن مجید یہی کو بھی باہمی رضامندی سے مشروط کرتا ہے۔

عنْ مَرَاضِنْ مَكْلُومْ (النَّاسُمْ)، یعنی تھماری رضامندی سے۔

مثال کے طور پر آپ کو ایک جوتا خریدنا ہے۔ آپ مارکیٹ میں گھویں پھریں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت ایک معیاری جوتے کی قیمت سو سو روپے ہے۔ آپ خریدتے ہیں تو اس میں کسی مجبوری کا دخل نہیں ہوتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت لگت اس قدر ہے۔ اس پر منافع کی شرح اندازا یہ ہو گی۔ یہ باہمی رضامندی کا سودا ہے لیکن کوئی ایسا معاملہ جس میں کوئی شخص کسی مجبوری کے تحت ایسا کر رہا ہو چاہیے تا اندازیا باث جاتا ہو گی کہ سرمایہ رکھنے والا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب وہ میرے پاس اپنی خوشی سے آیا ہے اور سرمایہ لے کر کار و بار کرنے کی صورت میں اس کے منافع میں مجھے شرکیں کرنے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس میں کسی مجبوری کو کوئی دخل نہیں، کہنے کو تو یہ بات ہے لیکن حقیقتاً مجبوری کو اس میں دخل ہے۔ اگر اس کے پاس سرمایہ موجود ہو تو وہ کسی کو اپنے خون پینے کی کمائی میں کیوں شرکیں کرے گا۔ یہ مختاربنت کی وہ شکل

ہے جو حلال ہے لیکن اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔

مزاہعت | اس قبیل کی ایک چیز مزاہعت بھی ہے۔ ایک شخص کی زین ہے،

کرتا ہے صفتی انقلاب کے بعد شین اور دوسرا چیزیں یا معدنیات بھی ذرائع پیداواریں شامل ہو گئیں۔ لیکن قدیم ترین ذریعہ پیداوار زمین ہی ہے اور زمین کے بارے میں بقول علامہ اقبال اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے :

ـ
نذیق خود را از زمین بردن رو است

ایں مستایع بندہ ولک خداست

مزاہعت کے بارے میں ہمارے ہاں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ اسے حرام مطلق کہتے ہیں وہ کسی نوع کی مزاہعت اور غیر مجاز زمینداری کو جائز نہیں سمجھتے۔ دوسرے فقہائی نسخہ احادیث پر فدا غور کر کے کچھ ایسے پہلو نکالے ہیں جس سے کچھ گنجائش پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس دور کے خاص حالات تھے۔ صالح مرسل یا استھان کے اصول کے تحت ایسی گنجائش نکالی گئی ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاہعت پر لفظ ربو استعمال کیا ہے۔

حضرت رافع بن خینع کے بارے میں حضور کو معلوم تھا کہ ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کہیں باہر جا رہے تھے، دیکھا کہ رافع کھیت کے پاس کھڑے ہیں پوچھا، تم یہاں کیسے؟ انھوں نے عرض کیا: زمین فلاں کی ہے میں نے محنت کی ہے اور میرے اور اس کے مابین یہ شرح معین ہوئی ہے تو حضور نے فرمایا قد اربیتاد تم نے ربو کا معاملہ کیا ہے) یہ زمین لوٹا دو، جو کچھ اس پر تھا لا خرچ ہوا ہے وہ تم لے لو اس لیے کہ اس زمین میں اس کی کون سی محنت شامل ہے جس کا وہ معاوضہ لے رہا ہے بہرہ اس وہ سے کہ زمین کا مالک ہے وہ اپنے بھائی کی گاڑی پسینے کی کمائی سے حصہ وصول کر رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کا یہ فتویٰ آنکھیں کھول دینے والا ہے اور ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ویسے تو یہاں ملک کی قوتے فی صد آبادی حنفیوں پر مشتمل ہے لیکن ایسے ایسے اہم معاملات میں امام ابوحنیفہ کا فتویٰ کوئی مانند کے لیے تیار نہیں۔ یا تو انھیں امام اعظم کہا اور مانا جاتا

ہے اور سید الفقہاء بھی، لیکن جہاں ان کا فتویٰ اچھا نہیں لگتا اسے اٹھا پھیستکنے اور دیوار پر دے مارنے میں کوئی ہچکچا ہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ہماری دولتی ہے جس پر ہمیں خور کرنا چاہیے۔ مدارست اور مضاربہت کو ہم نے تیرسرے درجے میں رکھا ہے۔

اب آئیے چونچی صورت کی طرف، اسلام میں جو مال موجود نہ ہواں کے بیع کی وجہ شکل بھی ہوگی جوام ہوگی۔ یہ جتنے لیڈوانس سودے ہو رہے ہیں، یہ تمام معاملات جن میں سروایہ کھیلتا ہے ان سب کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ بیع وہ ہے کہ مال موجود ہے اور قیمت ادا کر دی گئی یا دو چیزوں میں جن کا تبادلہ ہو گیا۔ ایک ہاتھ سے دیا دوسرا سے ہاتھ سے لیا، یہ بیع ہے اور اس میں بھی (عَنْ تَرَاضِ تَكْسُمٍ) باہمی رضامندی ضروری ہے۔ اگر مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، اگر کہیں مصنوعی قلت کے ذریعے سے ریث بٹھا دیے گئے ہیں، اگر کہیں کوئی اور کھیل کھیلا گیا ہے تو اس میں حرمت اپا پہلو شامل ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جو سودے بازی ہوتی ہے کہ زمین آپ نے بھیکے پر دی ہے، اب چاہے کسان کو کچھ پچھے نہ پچھے آپ کا بھیکہ محفوظ ہے، باغ میں ابھی بچل نہیں آیا اس کا سودا ہو گیا ہے، یہ سب حرام مطلق ہے، ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ادھار کی شکل میں صرف ایک سودا جائز ہے جسے بیع سلم کہتے ہیں دو چیزوں کا بالکل تعین ہو جاتے اور ان میں سے ایک چیز کا ٹاؤنے دی جائے یہ بیع سلم ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز فلاں وقت لے لوں گا اور یہ بیعاۃ لے لیجیے۔ اگر وقت پر وہ چیز نہ فرے کا تو بیعاۃ ہضم۔ اب یہ بیعاۃ کس کھاتے میں ہضم ہو رہا ہے۔ وہ سودا تو پورا ہو نہیں پایا۔ یہ ساری چیزوں درحقیقت اس وہر سے ہمارے ہاں رواج پا گئی ہیں کہ ہمارے یہاں شریعت کوئی ہیئت حاکم کی حیثیت سے ہے ہی نہیں، مارکیٹ میں جو رواج چلا وہ ہم نے اختیار کر لیا۔

اوور ٹریڈنگ ایک شخص کے پاس پانچ لاکھ روپے ہیں اور وہ اور ٹریڈنگ میں پچاس لاکھ روپے کا مال لے لیتا ہے تو اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس پانچ لاکھ روپے ہیں تو پانچ لاکھ کا سودا کر لیجیے۔ پانچ لاکھ اسی وقت آپ کو دے دینا ہو گا۔ اس ادائیگی کو بیع سلم کہتے ہیں۔ بیع کے ضمن میں بھی حدود قائم کر دی گئی ہیں اور ان سب کا مقصد یہی ہے کہ سرمائے کو زیادہ کھل کھیلنے

کاموق نہ ملے۔ اسی سلسلے میں میری زندگی کا ایک یادگار واقعہ ہے کہ اسی لاہور کے ایک بڑے دارالعلوم میں ایک صاحب سے ملتے گیا۔ عالم دین ہیں، شیخ الحدیث ہیں، حدیث کا درس دے رہے تھے، میں بھی بیٹھ گیا۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے جو کئی طریق سے آئی ہے، متن وہی ہے کہ طرق مختلف ہیں :

”لایبع الحاضر للبادی“ یعنی کوئی کسی جگہ کا رہنے والا شخص باہر سے آنے والے کے مال کو فروخت نہ کرے پا درس مکمل ہو گیا، موجودہ کاروبار کے بارے میں کوئی ریفارنس نہ آیا۔ ہمارے معاشرے میں یعنی دشرا کے جو طریقے ہیں اس پر کوئی بحث نہ ہوئی۔ میں نے سوال کیا: ”حضرت! ہمارے ہاں جو آڑھت کا کاروبار ہوتا ہے اس حدیث کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے؟“^۹

شیخ الحدیث نے جو جواب دیا وہ آپ بھی سنیے اور تعجب کیجیے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا: ”یہ آڑھت کیا ہوتی ہے؟“ اب یہ تجہیل عارفانہ تھا یا فی الواقع انہیں معلوم نہیں تھا۔ بہرحال میں تو نیت کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس دور میں شر لاهور میں ایک شیخ الحدیث جانتے نہ ہوں کہ آڑھت کیا ہوتی ہے، یہ بات بہرحال بظاہر قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے جب تشریح کی کہ یہاں کچھ لوگ دکانیں بنانے کا شاست کی ہیں منڈی ہوتی ہے، ان کا اڈہ ہوتا ہے۔ باہر سے لوگ جھفوں نے کاشت کی ہے، اماج اور سبزیاں لے کر کرتے ہیں مختلف منڈیاں ہیں، وہ ان کا مال فروخت کرتے ہیں، منڈی والے کمیش لیتے ہیں۔ ان کا جواب تھا کہ ”یہ تو مطلقاً حرام ہے۔“ اب اندازہ کیجیے کہ یہ فیصلہ کتنا قطعی ہے۔ اس میں بھی لوگوں نے حلال کے بہت سے پہلو نکال لیے کہ دو طرف آڑھت کا حکم تو یہی ہے لیکن اگر ایک طرف کمیش لیا جائے تو وہ حرام نہیں ہو گا، اس لیے کہ دوسرا شکل یہ ہو جاتی ہے گویا کہ وہ خریدار کی طرف سے وکیل بن گیا جو وکالت کر کے اس کی طرف سے مال کا خریدار ہے، اس طرح وہ اپنی وکالت کی اُبُرت لے رہا ہے جس میں اس کے لیے حلت کا پہلو پیدا ہو گیا ہے۔ اس تاویل میں بھی کسی بدلتی کو دخل نہیں لیکن میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں فقہاء نے اصول ایسے بنائے ہیں کہ جو عموم بلوی ہو یعنی کوئی چیز عام ہو گئی ہو یا زمانے کا ایک خاص چلن بن جاتے

اور اب اس کو بالکل ختم کرنا ممکن نہ ہوتا سے مصالح مرسلہ کہہ لیں یا احسان بہر کیف ایسی چیزوں کے بارے میں فقہا نے لوگوں کے لیے آسانی کی تجارت پیدائشی ہے مختصر آریہ کہ اس کے اندر جو حلت کا پہلو نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دو طرفہ آڑھت کے بالے میں کوئی اختلاف نہیں کہ حرام مطلق ہے اور ہمارے ہاں اجسas سبزیوں اور گوشت کا جو کاروبار ہوتا ہے وہ اس دو طرفہ آڑھت کی بنیاد پر ہوتا ہے، مثلاً گوشت کی فہرتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو قصایق شور پیمائتے یہیں کساری مصیبت ان آڑھتیوں کی ڈال ہوتی ہے جو اصل منگانی کا باعث ہیں۔ اس میں خوبی در خواہی یہ ہے کہ آڑھتی اپنا سرایہ ایڈوانس کرتا ہے اور وہ ایڈوانس کر کے پابندی لگاتا ہے کہ اپنا مال میرے ذریعے فروخت کرو گے۔ یہ خالص ربا ہے کہ الگ کہی نے کوئی رقم کسی کو دی اور اس رقم سے چاہے کوئی گن کر نقد معاوضہ نہیں لیا لیکن دوسرا سے کو اس کا پابند کیا کہ وہ اپنا مال اس کے ذریعے فروخت کرے گا یہ درحقیقت ربو ہے۔ یہ گندگی ہے دو حقیقت ڈھنمات بعضاً ہوئی بعضاً: یعنی کے بارے میں ان حدود و محدود کا مرکبی نفطہ یہ ہے کہ اسلام نے اپنے فقیہ و قانونی نظام میں بھی ایسے اقدامات کیے ہیں کہ سرماستے کو زیادہ کھل کھیلنے کا موقع نہ لے۔

روم اپاٹر کے عمد میں کرنی ایجاد ہوتی تھی۔ انسان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت اپنے سر پیسلٹ کر رہا ہے۔ جب تک یہ کرنی کا تصور نہیں تھا دنیا میں یعنی دین ہو رہے تھے لیکن تبادلے کی بنیاد پر تھے۔ اجنس کا تبادلہ تھا۔ ایک شخص نے کھیت میں کام کیا ہے اس نے فصل پیدا کی۔ دوسرا شخص کر گھے پر بیٹھا ہوا کھدر بنارہا ہے، دونوں اپنی ضرورت کے مطابق تبادلہ کر لیتے۔ اس میں ہبودنگ نہیں ہوتی، وہ کتنی گز نم اکھنی کرے گا لیکن جب سونے کو میں کر دیا گیا کہ ایک توں سونا مساوی ہے اتنے گز کپڑے کے۔ ایک توں سونا مساوی ہے اتنے من گز نم کے۔ کرنی کی لعنت دریان میں آئی، اب سرایہ داری کا آغاز ہوا۔ آپ نے اپنی ثبوری میں فرض کیجیے دس سیر سونا رکھا ہوا ہے، اب آپ کو موقع مل گیا آپ جس طرح چاہیں مارکیٹ سے کھیلیں، جس طرح چاہیں اوپنی بیچا کر لیں، جس طرح چاہیں کنٹرول کریں، یہ اس سرایہ کی لعنت ہے جس میں اصل چیز کرنی ہے۔ اس کرنی نے یہ

سارے امکانات پیدا کیے۔ سرماۓ کی اپنی ایک فارم ہے جبکہ سبکل کی اصطلاح میں مکان اور انسانی محنت بھی سرایہ ہے لیکن انسان کو غلامی کی زنجیوں میں بکرنے والی نامہ کرنی نے یہ ساری مصیبیں انسان پر لادی ہیں اور نہ انسانی صورت آپس کے تبادلے سے پوری ہو سکتی ہے۔ اس میں خواہ مخواہ تعریف کا پبلو تلاش نہ کیا جائے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اشتراکی مالک میں اس وقت جو معافی صورتیں آپس کے تبادلے سے پوری کرتے ہیں اور کرنی کا عمل دخل کم سے کم ہے۔ انسان ٹھوکریں کھا کر وہاں پہنچ رہا ہے جہاں کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب نے چودہ سو سال پہلے پہنچا دیا تھا: لَا يَشْعَثُ الْحَمَّاءُ لِلْبَادِيٌّ۔ ایک شخص نے گندم پیدا کی ہے وہ اگر خود بینچے اور اگر کسی کے پاس دس ہزار رو پہنچے ہے وہ اس دس ہزار کی گندم خرید کر بینچے۔ لیکن اگر ایک شخص اڈہ بننا کر بیٹھ جائے اور اس اڈہ کی بنیا پر کھاتا ہے تو یہ حرام ہے۔ یہ حدود وہ ہیں جن سے سرمایہ کاری، سرمایہ باری نہیں بنتی۔ سرمایہ کیسری کو سلطنت نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کچھ اضافی اقسامات یہیں جو دو دلت بھی مرکز ہو گئی ہے اسے تقیم کرنے کے لیے، گردش میں لانے کے لیے و راست کے احکام ہیں۔ اسلام کا روحانی انتکاڑ دولت کی طرف نہیں بلکہ تقیم دولت کی طرف ہے اور و راست اس میں ایک اہم روں ادا کرتی ہے۔ اس طرح سے اس میں دو چیزوں مزید شامل کر لیجئے۔ انسانی کمزوریوں کو Exploit کر کے کمانا، بعض انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے اس کے اس جنسی جذبے کو مشقیل کر کے کانا حرام مطلق قرار دیا گیا اور ہمارے ہاں فلم انہصاری کا کاروبار اس بنیاد پر ہے اس لیے میں نے اس کو کمزوری کہا ہے۔ قرآن مجید نے بھی شرم گاہ کے لیے لفظ فرج استعمال کیا ہے "اندیشے کی جگ"۔ فضیل میں جہاں دراڑیں پڑ جائیں جس سے ایک غیم کو اندر آنے کا موقع مل سکتا ہے وہ فرج ہے چنانچہ اعتمادے جسی کو بھی قرآن حکیم فرج سے تعبیر کرتا ہے کہ انسانی شخصیت کی فضیل میں یہ سب سے بڑی اندیشے کی جگہ ہے۔ اس کا کمزور پبلو ہے۔ میہاں سے اس پر بڑی جلدی سے حملہ کیا جا سکتا ہے شراب کی حرمت اور فحاشی کے کاروبار پر قدغن کی یہی محکمت ہے۔ انسان اگر دولت اور اس کیلیے کمانا ہے تو اس میں ایک بہت بڑا عصر اس کی عیاشی کرنے کی خواہش ہوتا ہے لیکن اسلام نے عیاشی کے دروازے ہی بند کر دیے ہیں۔ اب ایک انسان سرمایہ کو کے کہ کیا کریں آخروہ سرمایہ کا ہے کے لیے ہے۔ اس طریقے سے سرمایہ کے ساتھ Attachment

کر دیا گیا ہے۔ اسلام نے سرمایہ داری پر مختلف پہلوؤں سے اور مختلف اطراف سے جملے کے بیں اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اس نے اپنے قانونی نظام میں پرا ہائیٹ اوزر شپ (Ownership) کی صورت بھی برقرار رکھی ہے۔ ذاتی دیکپسی کو بروئے کار لانے کا موقع دیا ہے گویا کھلا بھی چھوڑ دیا ہے، محنت بھی کرو، کوشش بھی کرو، بھاگ دوڑ کرو کھیت میں خوب منت سے ہل چلاو، پسینہ بہاؤ۔ جو کچھ نسلے گا تھا رہا ہے، اس پر کوئی فلم اور بجز کے ساتھ قبضہ نہیں کر سکے گا۔ اس میں سے بوجتی معین ہے وہ دے دو۔ اس حقِ معین کے ذریعے تو کفالتِ عامہ کا بندوبست ہو گیا کہ Have not اور Have کی تقسیم زیادہ نہ بڑھنے پائے اور کوئی بھی بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ وہ نکتہ عدل ہے کہ آزادی بھی برقرار رہے اور مساوات بھی۔ اس کے علاوہ اسلام کے نظام میں یہ گنجائش بھی ہے کہ اگر کسی موقع پر نکوئے اور عشر کے ذریعے سے حاصل شدہ رقم سے کفالتِ عامہ کی ضروریات پوری نہیں ہوتیں تو بجزی میکس وصول کرنے کا اختیار ہے۔ یعنی حقِ ملکیت کو بھی کسی بھی طرح کا تقدیس عطا نہیں کیا گیا جو کسی سرمایہ دار نظام میں ہوتا ہے بلکہ وہاں اس ریاست کو جو غرباً و مساکن کی کفیل ہے، یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کی ضروریات کسی وقت اتنی بڑھ جائیں یا کوئی ایمِ صنی کی صورت ہو مثلاً جنگ شروع ہو گئی قحط نے آیا اور صرف نکوئے اور عشر سے کفالت کے تعاضے پورے نہیں ہوتے تو حکومت مزید بھی لے سکتی ہے۔ دوسرا طرف اگر کسی کاروبار کو پیلک میکردا میں دینے سے عدل کے تعاضے پورے نہیں ہوتے تو ریاست کو نیشنل آئرلائیشن کی اجازت بھی ہے کیونکہ اصل قدر عدل ہے مثلاً اجڑا داری ہے، کسی چیز کا صرف ایک ہی کارخانہ ہے اب مالک کے لیے یہ موقع ہے کہ جو وہ قیمت چاہے وصول کرے اور لوگ دینے پر مجبور ہیں۔ اس صورت میں چونکہ تعاضاتے عدل پورا نہیں ہوتا، اس صفت کو قومی ملکیت میں لینے کی پوری آزادی ہے۔

حضرت عمرؓ کے دور میں عراق کی زمینیں فتح ہوئیں (یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیئے کہ عراق اور شام کا علاقہ انتہائی زد نیز ہے)، فتوحات کے بعد مطابق کیا گیا کہ یہ زمینیں فونگ میں تقسیم کر دی جائیں اس لیے کہ یہ مال غیرت ہے۔ اس پر تنازع کی صورت پیدا ہوئی۔ دونوں طرف سے دلائل دیے گئے تو حضرت عمرؓ کی اجتیادی بصیرت

نے فیصلہ دیا کہ اس طرح عدل کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ سب ریاست کی ملکیت ہوں گی۔ اور اس پر کام کرنے والے موروثی مزارع چیشت سے کام کرتے رہیں گے۔ البتہ اسلامی ریاست لگان وصول کرے گی۔ حقیقت یہ کہ حضرت عُمَرؓ اگر یہ فیصلہ نہ فرماتے تو اسلام کے ذریعے دنیا میں بدترین جایگزداری نظام راجح ہو جاتا کیونکہ ان فوجیوں کی تعداد بہنچہ ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ قانون کے ڈھانچے میں بھی غرباً کی مصلحت کو پیش نظر رکھا گیا۔ جگائے سرمایہ کے محنت کو اتنا تحفظ دیا گیا لہٰذا اگر کہیں نکتہ عدل بحال نہ رہے تو اسے بھی ملکیت سے نکال کر قومی تحويل میں لے لیا جائے۔ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ حضرت عُمَرؓ کا اجتہاد ملکتا ہوا سُورج ہے۔ اسلامی ریاست میں دونوں نظام یعنی ملکیت اور اسلامی معاشرے میں موجود نہ ہوتے، یہ بیک وقت ہوتے ہیں اور اسلام کی برکات کا ظہور صرف قانونی نظام سے نہیں ہو سکتے گا۔ جب تک کہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ موجود نہ ہوں جو یمانی اور روحاںی سطح پر زندگی بسر کریں کیونکہ معاشرے کی اقدار کو کنشول یہی لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اصل قدر دولت اور سرمایہ ہے۔ جس کے پاس دولت اور سرمایہ ہے اسے بڑے سے بڑا شخص جھک کر لے گا لیکن روحاںیت کے علمبرداروں کے ہاں یہ بات نہیں۔ وہ گُدُری پوش سلطان اللہ نظام الدین اولیاء جو دریوش میں اور گویا کہ اسلام کی ایمانی تعلیمات کا مظہراً تم و کامل ہیں۔ انھیں زیاکی کسی شے سے رخصت نہیں۔ وہ دنیا کی کسی چیز کی ملکیت اختیار کر کے فخر کرنے والے نہیں۔ دن بھر کی ضرورت کے لیے دال روٹی اور ایک پخت سرچھپائے کے لیے ہے تو بس اس سے زیادہ کسی مزید چیز کے حصوں کی خواہش نہیں۔ مال و زر کے انہار انھیں قطعاً متاثر نہیں کرتے، جب تک کہ معاشرے میں ایسے لوگ موجود نہ ہوں جو اس اعلیٰ سطح پر زندگی بسر کرتے ہوں اور وہ آیت "وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنِقْعُونَ قُلِّ الْعَفْوُ" کا نمونہ بن جائیں، معاشرے کی قانونی اقدامات سے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ موجود رہنا چاہیے جس سے معاشرتی اقدار کا تعین ہوتا ہے جس سے وہ ایمانی حقیقت سامنے آتی رہتی ہے کہ اصل مسئلہ معاش کا نہیں معاد کا ہے، اصل چیز دولت نہیں یہی ہے، عمل صالح ہے، اللہ کا نام ہے اور اس کے رسول کا اتباع اور ان کی مجتہت ہے۔ یہ اقدار اگر معاشرے میں روشنی کے میلار کی طرح بالغفل موجود نہ ہوں تو اسلام کی برکات کا کامل ظہور

کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو ایک ناگزیر ضرورت کی حیثیت سے سامنے رکھیے کہ یہ نقش بھی معاشرے میں موجود رہتا چاہیے، ابوذر غفاریؓ موجود رہنے چاہیں اور ابوذر تو ایک انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ وہ فخرِ صاحبؓ اور اصحابِ صدقہ جو معاشرے کے اندر موجود تھے، انتہائی سیکن روکھی سوکھی کھانے والے، جنہوں نے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں دے دیا تھا جیسے حضرت ابوالدرداءؓ، حضرت مقدادؓ اور حضرت انس بن مالکؓ دعیہ مالیوں کے متعلق جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چرے جبار آؤد، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر کسی بات پر خدا کی قسم کھا بیٹھیں تو خدا نما لے ان کی قسموں کی لاج رکھے گا۔ یہ ہے ہمارے روحانی نظام کا ایک نقشہ، اگر یہ موجود نہ ہو تو محض قانونی نظام ہمارے سائل کا حل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے کہ کی زمین کا کرایہ لیا اس نے سوہ کھایا کیونکہ لوگ مج کی ادائیگی کے لیے کہ آنے پر مجبور ہیں۔ اب یہاں کے پروپرٹی اور پنڈت ہزار ہزار روپے ایک چھوٹے سے کمرے کے چند دوں کے لیے وصول کرتے ہیں اور یہ سارا ان کے نزدیک حلال ہے اور عیش کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ساری دولت پہلے بیویت میں عیاشیوں اور فحاشیوں پر خرچ ہوتی تھی، اب لندن پیرس اور امریکہ میں خرچ ہوتی ہے۔ اگر صرف قانونی جیلہ بازیوں پر آکتفا کیا جاتے تو یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اس لیے قانونی اور روحانی نظام کے جیعن امتزاج سے ہی اسلام کا معاشری نظام ترتیب پاتا ہے اور جہاں دُ کی کیجاں ہو سب کبھی نظام کو اسلام کا معاشری نظام کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہیں چند نکات جن کی روشنی میں ایک اسلامی فلاحی معاشروہ قائم کیا جاسکتا ہے۔

گریہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں

خاکسار

اسرارِ احمد عفی عنہ

۲۲ اگست ۱۹۸۲ء

اسلام کا نظام محاصل

از: ڈاکٹر اسرار احمد

یہ مقالہ تاریخ ۱۱ جنوری ۹۰ مولیٰ انظر کا نئی نیشنل لاهور میں
جسش ذکی الدین پال صاحب کی صدارت میں منعقدہ لاہور کلب
لاہور کے سالانہ اجلاس میں پڑھایا

اَحْمَدَةَ وَاصْلَى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ ، اَمَا بَعْدُ
فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ، لِسَمْرَاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
محترم صدر مجلس و صدرواراکن لاہور کلب اور معزز حاضرین !
سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس مفرد اور
 منتخب مجلس کو خطاب کرنے کا موقع دیا۔ میں اسے اپنے لیے ایک اعواز منصوٰر کرتا ہوں اور
اس پر آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ۔

البتہ یہ کے بغیر میں رہ سکتا کہ مجھے گفتگو کے لیے جو موضع آپ نے دیا ہے اس
میں کسی قدرنا الفضافی کا معاملہ ہوا ہے، میرے ساتھ بھی اور مو ضرع کے ساتھ بھی۔ اس لیے
کہ میں نہ معاشیات کے میدان کا آدمی ہوں نہ مالیات کا اور محاصل کا مشکلہ نہیں فنی
و فیضیت کا حامل اور بے حد پچیدہ ہونے کے علاوہ بیک وقت معاشیات و مالیات دوں
سے مغلظت ہے۔ ایک ایسا ہی لطیفہ حال ہی میں اور بھی ہوا ہے اور وہ یہ کہ جناب سید
نزہت پنجری صاحب (چینا یونیورسٹی) کی انٹرنیشنل فائی نیشن لیٹریشنے حال ہی میں
ایک مقالہ پڑھا جس کا موضع "Tax on income vs tax on produce" تھا۔

لیکن لطیفہ یہ کہ یہ مقالہ پیش کیا
گیا پنجاب بیویزرسی کے شعبہ فلسفہ کی شعبہ جاتی انجمن یعنی مجلس فلسفہ کے عمدیداروں کی
ملحت برداری کی تقریب میں ۔ گویا وہاں موضع کے افکار سے محتقر درست تھا لیکن

سامعین غلط تھے۔ یہاں مقرر تو یقیناً بالکل غلط ہے، البتہ سامعین کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا اے۔ بہر حال میں نے یہ گمان کیا کہ میرا انتخاب موضوع کے جزو شانی کے اعتبار سے ہوا ہے یعنی ” — System of taxation in Islam“

میں سے مجھ پر نگہ انتخاب اسلام کے ایک ادنیٰ خادم اور قرآن حکیم کے حقوق طالب علم ہونے کی ناپر ٹڑی ہے اور میرے لیے یہ بھی یقیناً ایک بڑا اعزاز ہے۔ بہر حال میں کوشش کروں گا کہ اصل روح دین اور نظام اسلام دونوں کے اعتبار سے اسلام میں نظام محال کے بارے میں جو کچھ میں بھجھ پایا ہوں، آپ کے سامنے رکھ دوں ।

” کے افاضا سے آپ سے آپ حققت

میرے نزدیک نظام معماشی کے اعتبار سے اسلام کے دوسری یادو پہلو ہیں، اور یہ دونوں ایک درسرے پر بہت حد تک Interdependent ہیں اور اسلام کی برکات و ثمرات کا کامل ظہور ان دونوں کے اتصال و اجتماع ہے اس سختا ہے اور یہ کتنا ہرگز غلط نہ ہو گا کہ اگر ان میں سے ایک پہلو کا ہوں سے ادھیل رہ جائے اور تو جو صرف ایک ہی پر متنحصر ہو جائے تو اس سے جو قصور سامنے آئے گی وہ بہت بعید از حقیقت ہوگی۔ ان دو پہلوؤں سے میری مراد یہ ہے کہ اسلام کا ایک اخلاقی دروحانی نظام ہے۔ اور دوسرا قانونی و قضیٰ نظام، ان دونوں کے تقاضے بسا اوقات مختلف ہی ہیں متفاہ ہرتے ہیں، بتا ہم ان دونوں کے امترانج ہی سے اسلام کا کامل نظام وجود میں آتا ہے۔ آپ چاہیں تو ان دونوں پہلوؤں کو ”دعویٰ“ (Thesis) ”ادیجواب عویٰ“

سے تعبیر فرمائیں اور ان دونوں کے امتزاج کو

(Anti-thesis)

قرار دے لیں، بہر حال ان کے وجود سے انکار ممکن نہیں ہے!

Synthesis

ایک چھوٹی اور سادہ کی مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ کوئی شخص آپ کے ایک خپڑے پر
فے تو اگر آپ بالکل عاجز و کمزور نہیں ہیں اس لیے کہ اس صورت میں تو تقدیر درویش
برجانِ درویش کے سوا اور کوئی صورت قابل عمل ہی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد مکن آگر آپ
بدلہ لینے پر قادر ہیں تو آپ کے سامنے دور استے کھلے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ بدلتے ہیں اور

دوسرا سے یہ کہ آپ معاف کر دیں۔ اسلام کا قانونی و فقہی نظام بدلتے اور قصاص کی
حوالے افرادی کرتا ہے، چنانچہ قرآن حکیم فرماتا ہے وَكُمْ فِي الْفِحْصَاصِ حَيْثُّ يَا أَوْلَى
اللَّلَّابِ، یعنی اے ہوشمند و امتحارے یہ قصاص ہی میں زندگی ہے؟ لیکن دوسرا
طرف اسلام کی اخلاقی و روحانی تعلیمات میں جن کا تقاضا یہ ہے کہ زیادتی کرنے والے کو
معاف کر دیا جائے؛ چنانچہ کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَنْ تَعْفُواً أَهْرَبُ اللَّتَّقْوَى
یعنی "اگر معاف کر دو تو یہ تقوی اور خلا ترسی سے قریب تر ہے۔" کہیں تشویق و ترغیب
کے انداز میں فرمایا جاتا ہے وَالثَّاكِظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ الْمُنَاسَ، یعنی
"وہ لوگ جو غصہ کر پی جائیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرسیں!"۔ دیکھ لیجئے کہ عفو و تصاحب
ایک دوسرا کی بالکل ضد ہیں، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ انسانی معاشرہ ان میں سے صرف
ایک پر استوار ہو سکتا ہے۔ دونوں اپنے اپنے مقام و محل پر لازم و ناگزیر ہیں اور جوں
معاشرت ان دونوں کے امتزاج ہی سے وجود میں آتا ہے۔

اسی پر قیاس کر کے سمجھیں لیجئے کہ اسلام کے معاشی نظام کے بھی دو پلڑیں؛ چنانچہ
ایک جانب اسلام کا قانونی اور فقہی نظام معیشت ہے جس کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہو کا کہ یہ ایک
نوع کی محدود سرمایہ داری (Controlled capitalism) ہے۔ اس لیے کہ اس میں ایضاً دو اقسام
سرمایہ کاری کی اجازت موجود ہے۔ اگرچہ اسے سرمایہ داری یعنی سے بعض تبدیلی اقدامات نے
روک دیا ہے۔ دوسرا جانب اسلام کا اخلاقی و روحانی نظام معیشت ہے جس کے بارے
میں میں پورے انتشار حصہ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک نہایت اعلیٰ فہم کی روحانی
اشرتکیت (Spiritual socialism) ہے، اور ایسا کامل سو شرکم ہے کہ
اس سے آگے کا تصور بھی ممکن نہیں اس لیے کہ سو شرکم یا کمیونزم میں تو پھر بھی انسانی بھلیک

کا اثبات موجود ہے اگرچہ الفرادی نہیں اجتماعی۔ لیکن اسلام اپنی اخلاقی و دوھانی اور صحیح تر الفاظ میں ایمانی تعلیم کی رو سے انسانی ملکیت کی کلی نفی کرتا ہے، چنانچہ قرآن حکوم بار بار یہ الفاظ آتے ہیں کہ **لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** یعنی آسمانوں اور زمین جو کچھ ہے ان سب کا مالک صرف اللہ ہے! انسان کسی اور شے کا مالک تو کیا ہو گا۔ خواہ وہ زمین ہو، مکان ہو، ساز و سامان ہو، روپیہ پسیہ ہو، وہ تو خود اپنا اور اپنے وجود کا مالک بھی نہیں، اس کے ہاتھ پاؤں، اعضاہ جو اسح اور بسم وجہ اور اس کی کل توانائیں سب اللہ کی ملکیت ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان کا امین ہوں لیکن شیخ سعدیؒ سے

**اُس امانت چند روزہ نزدِ ما س است ۔ ۔ درحقیقت مالک ہر شئ خدا است
یا بقول علامہ اقبالؒ ۔**

رزق خود را از زمیں بُرُدن رواست ۔ ۔ ایں متار بندہ و ملک حُمد است!!
اسلام کے اس دوھانی سو شرکم کی رو سے جس کا آغاز انسانی ملکیت کے تصور کی کلی نفی سے ہوتا ہے، اس دُنیا میں انسان کا حق صرف اس کی مزوریات ہیں اور بس !!! -
مزورت سے زاید اس کے پاس جو کچھ ہے اس پر اس کو فائزی و فتحی حق حاصل ہو تو ہو
حقیقی حق کوئی حاصل نہیں۔ یہ دراصل دوسروں کا حق ہے جسے اللہ نے صرف بطورِ امتحان
اس کے تصرف میں دیدیا ہے تاکہ دیکھ کر آیا وہ اسے خداروں یا کہ پہنچا کر اوڑھنے تک
رسیہ“ والا معا مذکور کے تُرخ رُد ہوتا ہے یادوں کے حق پر قبضہ مخافا نہ جماں کل پیچہ رہا
ہے اور اس قدر نیا یہ“ کے بل پر ابناۓ نوع پر دھونیں جاتا ہے اور شادابوں اور دوسری
تفقریبوں میں اس عصب شدہ دولت کو اللہو تللوں میں اُڑا کر حromoں کے زخمی دلوں
پر اور نکل چڑکتا ہے ۔ ۔ اب جن کے دلوں میں ایمان و اقتدار اسی ہو جاتا ہے اور اللہ
اور آخرت پر ان کا یقین حکم قائم ہو جاتا ہے اور ان کی نگاہ ہر دم **إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**“ پر محی برستی ہے ان کی روشن لامحاء سپلی ہوتی ہے جس کو قرآن نے واضح
کیا ان الفاظ میں کہ **لَيَسْتُؤْنَكَ مَا ذَا يُنِيفُونَ قُلِ الْعَفْوُ!**“ یعنی“ راے
نبی ۚ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں یعنی اللہ کی راہ میں کس حد تک دے ڈالیں
کہ دیکھے جو بھی زاید از صورت ہو!“ — اور جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے

اس شعر میں کہ "بوجرفِ قل اللعفو" میں پوشیدہ بھتی اب تک

اس دُور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار ہے

بچریہ بھی کہ اسے اپنا کوئی احسان نہ سمجھو، بلکہ یہ تو خطا ہی دسروں کا حق بخواہے الفاظ قرآنی "رَفِعْ أَمْوَالَهِمْ حَتَّىٰ مَقْلُومٌ لِّكُلِّ شَأْنٍ وَالْحَرَدُومْ" ۔ "ان کے مالوں میں معین حق ہے سائلوں اور محروموں کا ہے" اور "وَاتَ ذَالْفُرُونَ بِالْحَقْتَهُ وَالْمُسْكِنَ وَابْنَ الْسَّكِيلِ" ۔ اور ادا کرو قربت داروں اور سکینوں اور مسافروں کو ان کا حق ہے ۔ اس کے برعکس جو لوگ اس کائنات اور خود اپنی ذات و حیات کی اصل حقیقوتوں سے بالکل بے خبر ہو کر زندگی سب سر کرتے ہیں ان کی روشن ہوتی ہے دوسرا جس کا اوپر لین تیجھے ہے امراف اور انتہائی منزل ہے تبذیر ہے ۔ امراف کہتے ہیں جائز صدور توں پر صدورت سے زائد خرچ کرنے کو اور یہ بھی بہت معیوب ہے ۔ جبکہ تبذیر ہے بالکل بلا صدورت صرف نمودر نمائش اور اللہوں اور طلبوں میں بعد پریہ اڑانا اور یہ وہ جرم ہے جس کے مرتكبوں کو شیطان کے بھائی قرار دیا گیا ۔ بخواہے الفاظ قرآنی "إِنَّ الْمُبَدِّدِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَنِ" یعنیًّا فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں ۔ اعاذه ناللہ مِنْ ذَلِكَ ۔

الغرض اسلام کی روحانی و اخلاقی ۔ یا یہاں تعلیمات کا مा�صل اعلیٰ ترین اور عظیم ترین

اوسری اعتبار سے کامل ترین *Spiritual socialism* ہے، فیکن یہ

تصویر یہ کا صرف ایک رُنخ ہے ۔ دوسرا رُنخ کے اعتبار سے اسلام کا نظام معیشت

یعنیًّا ایک *Controlled capitalism* ہے ۔ اس لیے کہ اسلام

قانونی و قسمی اعتبار سے افراد کو زمین، مکان، سازنے دسمان حلقی کہ ذرا شیخ پیداوار تک پر ایسا

حقِ تصرف عطا کرتا ہے جو کم ان کم ظاہری اعتبار سے حقِ ملکیت سے کامل شبہت رکھتا ہے ۔ یہاں تک کہ یہ حقِ تصرف یا حقِ ملکیت و راثتہ اولاد و احصاء کو منتقل ہی رہ سکتا

ہے ۔ الغرض، اپنے قانونی و فقی نظام میں اسلام نے انسان کے جلی تقاضوں کو جنم و

کمال محفوظ رکھا ہے اور بخی ملکیت *(Private ownership)*، ذائقی حوصلہ مزدی

(Free-enterprise) اور آزاد معیشت *(Personal incentive)*

کے اصولی سہ گانہ کو تابوںی سطح پر برقرار رکھ لکھ رکھا یہ کارہی" کے یہ وسیع میدان پیدا رہا یا ہے البتہ

اس صحن میں بعض نہایت اہم اور بنیادی اور حدود جو موثر احتیاطی تدبیر ایسی اختیار کی ہیں

جن کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں "صحتنامہ سرمایہ کاری" کی فضائی قائم رہے، لیکن یہ "سرمایہ داری" کی صورت اختیار نہ کرے۔ ان اختیاطی تاختییدی نہابیر کے بارے میں غسلی بحث یہی موجودہ مفتونگ کے موضع سے خارج ہے، صرف اشارۃ عرض کر سکتا ہوں کہ سود یعنی (Interest) سستہ یعنی (Speculation) اور احتکار یعنی (Hoarding) دیگر کی حرمت کی اصل عرض دعایت یہی ہے جو میں نے بیان کی یعنی سرمایہ کاری، سرمایہ داری نہ بن جائے، اور capitalism بسے حال

Controlled رہے، — البتہ اس حقیقت سے انکار صرف ہٹ دھری ہی سے کیا جاسکتا ہے کہ سرمایہ کاری خواہ کتنی ہی پابند کیوں نہ ہو فرق و تفاوت کو لازماً جنم دے گی اور اس سے اغیاناء (Haves) اور فقراء (Have-nots) کا وجود میں آنا ناگزیر ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی دو طرف میں دس افراد فرشتے ہوں اور خواہش یہ ہو کہ وہ سب برابر ہیں، نہ کوئی آگے بڑھے نہ پچھے رہے تو اس کی نوایک ہی صوت مٹکن ہے، یعنی یہ کہ ان سب کو ایک راستے سے باندھ دیا جائے۔ لصافت دیگر تو لا مالا کوئی آگے بڑھے گا اور کوئی پچھے رہ جائے گا! کویا اسلام کے قانونی و فقی نظام میں جبری مساوات' (Forced equality) کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن اتنی ہی بڑی اور اعم حقیقت یہ بھی ہے کہ اسلام کے نظام حاصل میں اسی فرق و تفاوت کے مسئلے سے عہدہ برآ ہونے کے مقصد کو اُتلین اور مقدم ترین اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اغیاناء اور فقراء کی تقسیم کو اعتباری یا عارضی یعنی (Arbitrary) نہیں رہنے دیا بلکہ اس کے لیے ایک باقاعدہ و باضابطہ حد فاصل کھینچ دی ہے جسے اصطلاح شرع میں "نصاب" کہتے ہیں جس کا تعین اموال کی تقریباً تمام بڑی بڑی صورتوں میں کر دیا گیا ہے۔ مثلاً سڑھات تو لے یا اس سے زائد سرنے کا مالک اغیاناء میں شامل ہو گا، اور سڑھے سات تو لے سے کم رکھنے والا فقراء میں سے اور اسلام کے نظام حاصل کا اہم رکن یعنی منکوٰۃ اغیاناء سے لی جائے گی اور فقراء میں تقسیم کردی جائے گی بقول بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم "تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِ هِمْ وَتُنْهَى إِلَى فُقْرَاءِ هِمْ"؛ اور اس طرح وہ تمام تقاضے بتمام و مکمل اور باحسن وجوہ پورے ہو جاتے ہیں جنہیں اس دور میں اجتماعی ضمانت، —

(Social security) نیا سماجی تحفظ (Collective insurance)

سے تبیر کیا جاتا ہے۔

اور اس سب پر مستزاد ہے وہ روحانی و اخلاقی اور ایمانی و احسانی تعلیم جو اسلام اپنے ہر مانندے والے اور قرآن اپنے ہر پڑھنے والے کو مسلسل دیتا ہے کہ لذاتِ دینیوی اور تیقشی و تنقیم سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ اپنی ضروریات کو کم سے کم کرو، اور حقيقة اور واقعی ضروریات سے جو بھی زاید ہو جائے اللہ کی راہ میں وسے دو اور یہ نہ سمجھو کر ماں میں واحد خون زکوٰۃ ہی ہے۔ یہ تو کم از کم اور ناگزیر قانونی ضابطہ ہے۔ ایمان کا اصل تقاضہ و مطالبہ اس سے بہت آگے ہے۔ بنو جب فران بھری صلی اللہ علیہ وسلم ”فِي الْمَالِ حَقٌّ لِّسُوئِي الزَّكَاةِ“ ماں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سے حقوق ہیں۔ اور اچھی طرح جان بھیجئے کہ نظامِ اسلامی کا اصل حُسن و جمال اور اس کی اصل برکات اُس کی اسی دوسری اور تکمیلی تعلیم و تلقین میں مُضمر ہیں! ۱۷

اسلامی نظامِ مملکت میں نظامِ محاصل کے بارے میں ایک اہم اور اہمُولی بات اور بھی ہے جو تم نظر بھی صوری ہے اور وہ یہ کہ اسلامی ریاست اصلًا ایک نظریاتی ریاست ہے اور اگرچہ اس کی حدود میں بننے والے تمام شہری بلا امتیاز مذہب و ملت بعض اعتبار سے بالکل مساوی بھی ہیں جیسے حُرمتِ جان و ماں میں تاہم بہت سے اعتبارات سے شہریوں کا دو حصوں میں منقسم ہونا لازم والا بدد ہے۔ یعنی ایک ذہ جو اس نظریہ کے منانے والے ہوں جس پر ریاست قائم ہے اور دوسرے وہ کلے نہ مانتے ہوں۔ چنانچہ اسلام کے نظامِ محاصل کے اعتبار سے بھی ایک اہم اور بنیادی تقسیم اسی اعتبار سے ہے کہ بعض کی ادائیگی صرف مسلمانوں پر ہے یعنی اسلامی ریاست کے اصول و مبادی کے ملنے والوں پر اور بعض کی غیر مسلمانوں پر یعنی ان پر جو ان اصولوں کو نہیں مانتے، پھر یہ کہ ان دونوں کی نوعیت میں بھی زمین دآسمان کا فرق ہے اور ان کے مذاہیر میں بھی اساسی اور بنیادی فرق ہے۔ چنانچہ مسلمانوں سے نقی کی تمام صورتیں اور اموالِ تجارت پر زکوٰۃ و صول کی جاتی ہے جس کی شرحِ مکمل مالیت کا ۲۰ فی صد ہے، ان کی نسبتی اراضی میں سے نہری یا چاہی زمینوں کی کل پیداوار کا بیسوں حصہ وصول کیا جاتا ہے یعنی وسی فی صد۔ اور بارانی زمینوں کی پیداوار سے کل کا دھوال حصہ وصول کیا جاتا ہے یعنی وسی فی صد۔ اور ان دونوں کی نوعیت TAX کی نہیں ہے بلکہ اصلاح عبادت کی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی شرح

یہ بالکل معین ہے جس میں کسی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ ان کی حیثیت عبادت کی نہیں رہے گی بلکہ صرف ایک Tax کی رہ جائے گی۔ اسی طرح ان کی مدتِ صرف بھی معین ہیں، ان کے علاوہ کسی تدبیں صرف نہیں کیا جاسکتا۔ جن کا مجموعی ماحصل وہ اجتماعی ضرائب یا سماجی تحفظ ہے جس کا ذکر اور پر ہو چکا ہے!

اس کے بعد غیر مسلموں کے اموال سے حصہ وصول کیا جاتا ہے اور ان کی زمینوں سے "خراج" اور ان دو نوں کی حیثیت خالصہ Tax کی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی کوئی شرح بھی معین نہیں، ان کا تعین حکومت وقت کی صوابیدہ پر ہے اور اسی طرح ان سے حاصل شدہ رقوم کے صرف پر بھی کوئی پابندی نہیں، جملہ شعبہ نامے حکومت کے اخراجات اور نظم و انصرام ملکت کے تمام تقاضے ان سے پوچھ کر جائیکے میں ملے اسلامی حکومت کی آئندی کا ایک اور شعبہ جس کی شرح معین ہے وہ اموال خیں ہیں یعنی پانچواں حصہ یا بیس فی صد جو اموال غنیمت، کنز یعنی فینے، اور کافی یعنی معینیات سے وصول کیا جاتا ہے۔ ان کی جس طرح شرح وصولی دلکش و غشیر کی طرح

لئے ایک ہبادیت اہم اور قری اور فقر حنفی کی رو سے ہبادیت حکم رائے یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جملہ اراضی "خارج" کے حکم میں ہیں نہ کوئی غشیری، کے حکم میں، گویا اگر امام ابوحنیفہ کی مزار عوت کے مطلاع حرام ہونے کی رائے کوئی وجہ سے چھوڑ کر صاحبین یعنی تاجی ابوبیسفہ رحم اور امام محمد شیبانی رحم کی رائے پر عمل کیا جائے تو مجھ پاکستان کی جملہ اراضی کے کاشت کار برداہ راست ریاست پاکستان کے "مزارع" ہوں گے اور ان کا "خارج" برداہ راست خزان عاشرہ میں مجھ ہو گا۔ جس سے TAXATION کے پر ہے نظام میں انقلاب آجائے گا۔ اور فالبًا انکم میکس کی توسرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اس موضع پر پروفیسر فیض الدین شہب صاحب کی اکیل مختصر تحریر اس کتاب پر کے آخر میں درج کی جا رہی ہے۔ پروفیسر صاحب اپنے بعض نظریات کی نسب پر ہمارے دینی حلقوں میں شدید "متنازع"، "غمغیت" بن چکے ہیں لیکن، ہمیں تو ہبادیت ہے کہ "انظر والی ماقات" ولا تنظر والی من قال"۔ یعنی یہ دکھو کر کی جا رہا ہے، اسے نظر انداز کر دو کر کجھ مالا کوں ہے! لہذا اس معلے میں ان کی رائے پر جملہ اہل علم کو غور کرنا چاہئے۔

(اسرار احمد)

۴۳

معین ہے اس طرح مدت صرف بھی صرف وہی ہیں جو زکوٰۃ اور عشرت کی۔ اس فہرست میں صرف ایک اور شق کا اگر اضافہ کر لیا جائے تو ایک پہلو سے بات مکمل ہو جائے گی اور مدد مان مکمل سے ٹھہر جائے گا۔

۲۔ ضرائب | یعنی وہ مزید Tax جو حکومت حسب صدورت شہریوں پر عاید کر سکتی ہے۔ عام حالات میں بھی اگر دفاع اور نظم مملکت کی صدوریات اور فقرام کی احتیاجات مندرجہ بالا تمام مددوں سے پوری نہ ہو رہی ہوں اور خاص اور منگل کی حالات میں بھی جیسے زمانہ جنگ یا قحط سالی یا کسی عمومی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

کے باعث عام بے روزگاری وغیرہ۔ ایسی خاص صورتوں میں اسلامی حکومت کو انہیں پر Tax لگانے کا غیر محدود اختیار حاصل ہے۔

Depression

۵۔ اموال فاضلہ تو اس کی کل جائیداد اسلامی حکومت کی ملکیت قدر پاتی ہے، اسی طرح کوئی مسلم مرتد ہو جائے تو اس کا کل مال بھی بیت المال میں انہیں ہو جاتا ہے اور اگر کوئی غیر مسلم شری بخادت کا منصب ہو جائے تو اس کی کل میراث بھی اسلامی حکومت کا حصہ ہے۔

۶۔ اوقاف وقت الگ کسی خاص مقصد اور معین مقصد کے لیے ہوں تو ان کی آمدی اسی مصارف پر خرچ ہوگی، لیکن اگر کوئی مشری عالم فی سبیل اللہ وقف کرتا ہے تو گویا وہ اسلامی حکومت کی ملکیت شمار ہو گا اور اس کی کل آمدی بیت المال میں شامل کی جائے گی۔ ان میں سے قبیلے، اموال فاضلہ اور عام اوقاف تو کل کے کل بیت المال میں داخل ہوں گے، البتہ ان کے ضمن میں کسی شرح کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ کلمہ الارض، ضرائب اور عشور کی حیثیت Taxes کی ہے اور ان کی شرح وقتاً تبدیل کی جاسکتی ہے جیسے بھی ضروبت فلامی ہو۔ اسی طرح ان کے حاصل شدہ آمدی کے صرف پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ یہ انتظام حملکت کے امورات اور دفاعہ عامہ، عمومی فلاح و بہسوار اور Public works سب پر خرچ کی جاسکتی ہے۔ اگرچہ ایک رائے یہ ہے کہ ضرائب اور عشور میں سے بھی جو رقوم مسلمانوں سے مال ہوں گی ان کی مذمت صرف بھی صرف وہی ہوں گی جو زکوٰۃ، عشور اور صدقات کی ہیں۔ اس تفضیل سے ایک جانب تو وہ حقیقت بالکل عجیب ہو گئی جو پہلے عرض کی جا پسکی ہے یعنی یہ کہ اسلامی نظام حملکت میں Taxation کے اعتبار مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین بڑا بنیادی فرق ہے اور یہ فرق فطری بھی ہے اور عقلی و منطقی بھی۔ اس لیے کہ ایک غیر مسلم کے لیے اسلامی حکومت بس ایک امن و امان اور نظم و نسق قائم رکھنے والے ادارے کی حیثیت رکھتی ہے اور بس اجیکہ ایک مسلمان کے نزدیک اسلامی حکومت زمین پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ ہوتی ہے

اور اس کا مقصد صرف دنیوی فلاج و بیو دہی نہیں ہوتا انہوں فوز و فلاج بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ قائم ہی ہوتی ہے۔ نظریہ اسلامی کی ترویج و اشاعت اور دنیا میں اسلام کی تبلیغ اور غلبہ و افامت کے لیے۔ اس لیے اس کی ضرخاہی و وفاداری اور اس کا بقاء و استحکام مسلمان کے عین دین و ذہب کا تعاضا ہے۔ چنانچہ وہ اس کو اپنی کمائی یا اللہ کے فضل میں سے جو کچھ دیتا ہے اسے عبادت سمجھ کر دیتا ہے۔ اُس کے پیشہ تصور کو مزید تقویت حاصل ہوتی ہے اس حقیقت سے کہ ان کی فرضیت اور شرح اوایمک اند اور اس کے رسول کی طرف سے ہیں جو حکومت وقت صرف جمع کرنے والی یعنی (Collector) اور تقسیم کرنے والی یعنی (Distributor) ہے نہ کہ عاید کرنے والی اور عدم اوایمک یا ادائیگی میں کہمان و فریب صرف قانون کی خلاف و رزی ہی نہیں ہے بلکہ گناہ اور معصیت ہے جس کا دباب ابدی انہوں نزدگی میں بھگنا پڑے گا۔

دوسری حقیقت یہ ہے جو اخونے ہو گئی کہ مسلمان شہروں سے اسلامی حکومت کو جو کچھ وصول ہواں میں سے اکثر کا اولین مصرف اس طیح کو پاشا ہے جو اسلام کے قانونی و فقہی نظام میں موجود آزاد معیشت کا لازمی نتیجہ ہے خواہ وہ کم ہو یا بیش!

تیسرا اہم حقیقت جو دنیا کے دوسرے اکثر نظام ہائے Taxation سے مختلف ہے۔ وہ یہ کہ اسلام کا غالب رجحان یہ ہے کہ Tax کے لیے اساس و پہنچا دنہ فرد بحیثیت فرزہ جس پر Poll یا Capitation tax عاید کیا جاتا ہے، نہ Income tax کی بنیاد پر نہ آمدنی ہو جس پر

و سعی خرچ یا Capacity to spend ہو بلکہ گل پیداوار یا ملکیت یعنی

جیسا کہ زکوٰۃ یا عشر یا (Total produce or possession) خمس سے خاہر ہوتا ہے، Tax عاید کرنے کی ان دوسری اساسات کے مقابلے میں اسلام کی اختیار کردہ یہ اساس کن مصلحتوں پر مبنی ہے، یہ ایک دقیق فتنی مشعل ہے بتاہم اس ضمن میں ایک کوشش تو سید نزہت بخاری صاحب نے اپنے اس مقابلے میں کی ہے جس کا ذکر میں آغاز میں بطور لطیفہ کرچکا ہوں۔ ان کی تخفیض کا لبت لباب یہ ہے کہ Income tax کا رجحان ٹرھتا ہے جبکہ Inflation پر عاید کرنے سے افزایش ریا کا رجحان ٹرھتا ہے جبکہ

پر میکس عاید کرنے سے اس کا قلعہ Total produce or possession ’

قوع ہوتا ہے۔ میں ایک بغیر فتنی انسان کی حیثیت سے ان کی دلیل کو پورے طور پر سمجھنیں پایا، تاہم یہ ایک ہم خیال ہے جو ایک واقعی حال شخص نے ظاہر کیا ہے اس پر توجہ دی جانی چاہیے ۔

میرے سامنے ایک عالمی کی حیثیت سے اس کی ایک دوسری اور عظیم تر مصلحت آئی ہے اور وہ یہ کہ آمدی کا صحیح صاحب رکھنا نہ ہے جو سے شیر کا؟ کامیابی کا مصداق ہے۔ اور اس کے لیے بہت بڑے چوڑے اور Elaborate accounting کی ضرورت ہے۔ جبکہ اسلام کے نظام محاصل میں سے اکثر کے لیے اس کی کوئی حاجت نہیں رہتی۔ اب ہر ہے کہ بڑے بڑے شرکتی اداروں یا Limited companies کے لیے تو تفصیلی حساب کتاب دیتے بھی ناگزیر ہے تاکہ حصہ داروں کے مابین منافع کی تقسیم صفاہ ہو سکے اور اگر یہ ادارے اپنے Accounting کے اعتبار سے اس Size کے لیے

پر زور کش صرف کریں تو کوئی زیادہ بار بھی نہ ہو گا۔ لیکن آبادی کی عظیم اکثریت بچھوٹے چھوٹے کار دبار لئے بھی ہے اس کے لیے حساب کتاب کا یہ معاملہ خالص دوسری ہے اور شخص ضیاع بھی۔ یہ معاملہ بچھوٹے بچھوٹے دو کانڈاروں ہی کا نہیں ہے۔ ہمارے درمیانی طبقے کی عظیم اکثریت کا ہے۔ آپ ایک ڈاکٹر کا تصور کریں جو روزانہ اوس طاوس سے ڈریخ سو مرینچ دیکھتا ہے، اب اگر وہ اپنی آمدی کا صحیح صاحب رکھنا چاہے اور وہ بھی ۔۔۔ الیسا جو انکم ٹلکس آفیسر کے نزدیک قابل تصدیق ہو تو اسے ہر مرینچ کا نام اور اس کو روزانہ دی جانے والی ادویات کی تفصیل کے علاوہ ادویات کی خرید و فروخت کا پورا حساب اور ان کا مکمل سٹاک اکاؤنٹ رکھنا ضروری ہو گا جس کے لئے ایک سکلر ک اور ایک اکاؤنٹنٹ کی خدمات لازمی ہیں ۔۔۔ اور ان سب پر جو فریج آئے گا وہ خالص Non-productive ہو گا۔ وقس علی ڈلکٹ ۔۔۔

اس کے بعد اسلام کے نظام محاصل میں اس کی قطعاً گوئی ضرورت نہیں ہے۔ برعکس سال کے آخر میں اپنی مالی حالت کا حساب باسانی کر سکتا ہے اور اس پر زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ وَالْأَخْرُ دُعَا نَاهَانَ الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

عُشْری اور خراجی اراضی

پاکستان میں عُشْری نہیں صرف خراجی زمین ہے

پروفیسر رفیع اللہ شہاب

اسلامی ریاست میں حکومت کی امدنی کی سب سے بڑی بڑی خراجی زمین ہے۔ اور آج بھی اسے امدنی ہی سے پورے ہوتے ہیں اور اس نظام کی سب سے بڑی خراجی زمین ہے آج بھی اس مد سے اتنی امدنی حاصل ہو سکتی ہے کہ کسی مزید علیکیس کی مزدورت باقی نہیں رہتی، اسلامی قانون کے مطابق تمام مفتوح ممالک جن میں بر صیری پاکستان و بھارت شامل ہیں کی انہی خراجی کے ذیل میں آتی ہیں۔ تمام اسلامی ادوار میں اس اسلامی قانون پرستی سے عمل ہوتا رہا ہے یہاں تک کہ ۱۹۹۳ء میں انگریزوں نے بنگال کے بندوبست دوامی کے ذریعے یہاں کی اراضی کی حیثیت بدل دی اور غیر حاضر زمینداروں کا ایک طبقہ پیدا کر دیا۔ ان زمینداروں کی اپنی طرف سے عشرادا کرنا شروع کیا اور گوشش کی کر عمار، اس کے جواز کا فتویٰ فیض لیکن چونکہ ایک دفعہ خراجی قرار دی ہوئی زمین ابتداء عُشْری میں تبدیل نہیں کی جاتی۔ اس لئے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء میں اس بارے میں جو سینکڑوں فتویٰ پوچھ گئے ان سب کا بھی جواب دیا گیا کہ یہ اراضی کسی صورت میں عُشْری میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہاں، اختیاٹاً کوئی عشرادا کرنے کے قواسم کی اپنی صرفی ہے۔

اس موضوع پر اقام کا ایک مفصل معمون نولے وقت میں شائع ہو چکا ہے مجھے تلقعِ حقی کی عمار کرام اس سلسلے میں کچھ وضاحت فرمائیں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے نہ ہمارے ہاں اسلامی نظام کے نفاذ کے بغیر تو میں سال سے لگ رہے ہیں لیکن اس مقدمہ کے لئے جس قدر ”ہوم درک“ کی مزدورت ہے اس سے پہلو تھی کہ جاتی رہی اس موضوع پر اقام نے پندرہ سال پلے تحقیقی کام شروع کیا اور ۱۹۶۹ء میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی میں الاقوامی کانفرنس میں ایک مختصر میٹنگ میں اسلامی نظریاتی کونسل کے اس وقت کے چیئرمین علامہ ملاو الدین صدیقی نے نظام عشر پکنٹکو شروع کی تو اقام نے بہت

سے اپل علم کی موجودگی میں اس کی تصحیح کی کہ ہمارے ملک کی اراضی خراجی، کے ذیل میں آتی ہیں جن پر عشر کا اطلاق نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ہی اسلامی فقہ کی معتبر کتابوں سے تم حوالہ جات ان کے سامنے رکھ دیتے۔ علامہ شاہ محمد جعفر پھلواری اور ادارہ تحقیقات اسلامی کے اسکاروں نے میرے نقطہ نظر کی تائید کی چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ میں نظریاتی کو نسل کی رہنمائی کے لئے ایک مسسل کتاب اس موضوع پر تیار کر دوں جس کی نگرانی مسٹر خالد اسحاق ایڈو و کیٹ کریں گے جو اس وقت اسلامی نظریاتی کو نسل کے ایک سینزیر رکن تھے اور آج بھی اس منصب پر فائز ہیں۔ راقم نے خالد صاحب کی لا بُربری میں بیٹھ کر دو ماہ میں مطلوبہ کتب ب تیار کر کے ان کے حوالے کی اور ساتھ ہی اس کے مطابق ۱۹۴۹ء کا قومی بجٹ بھی بنادیا جس میں موجودہ ٹکسیبوں میں سے ایک ٹکسی بھی نہ تھا۔ میرا تحقیقی ہم ان حضرات کے لئے چیخجھی کی بات بھی اس لئے انہوں نے مختلف ذراائع سے اسے چیخ کرایا۔ ادارہ تحقیقات اسلامی کے اسکاروں نے بھی اس کی تصدیق کر دی اور پھر ادارہ نے اسے کتاب کی صورت میں اسلامی ریاست کا مالیاتی نظام کے عنوان سے شائع کر دیا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ اب حب زکوٰۃ اور عشر ارمی نہس نافذ کیا گیا ہے تو اسلامی نظریاتی کو نسل کے سامنے یہ تفصیلات نہیں تھیں۔ اتفاق سے انہی دونوں مسٹر خالد اسحاق ایڈو و کیٹ جن کی نگرانی میں راقم نے یہ تحقیقی کام کیا تھا، ادارہ تحقیقات اسلامی میں تشریف لاتے۔ جہاں اسکار اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ راقم نے خالد صاحب کو یاد دلایا کہ انہوں نے عشر کا نیا قانون بناتے وقت محلے تمام تحقیقی کام کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ان کے گوش گزار کی کہ امت مسلمہ کے ستر فقہی مذاہب کہ جن میں سے اکثر اب ختم ہو چکے ہیں کے تمام فقہاء کا اس امر پر اتفاق ہے۔ اور اسلامی فقہ کی ڈیڑھ ہزار کتابوں میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس کے تحت پاکستان کی اراضی کو عشرہ کے ذیل بزرگ کتابوں میں لایا جائے۔ ادارہ تحقیقات اسلامی کے اسکاروں نے تو کچھ ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ یہ ادارہ اسلامی قانون کے نفاذ کے لئے تحقیقی مواد ضرایم کرنے کی خاطر قائم کیا گیا لیکن اگر ان کی تحقیق کو درخواستناہیں سمجھا جاتا تو پھر اس ادارے پر غریب عوام کے کروڑوں روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے خالد صاحب سے یہ بھی درخواست کی کہ صدر صاحب نیک نیتی سے اسلامی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں اس لئے خدا کے لئے ان کے سامنے محسوس تفصیلات پیش کی جائیں خالد صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ نظریاتی کو نسل کے چیزوں کی توجہ

اس طرف دلایلیں گے۔ علمائے کرام کو اس مسئلہ کی اہمیت کی طرف توجہ دلانے کے لئے فقہ کی ابتدائی کتاب ”مالا بد“ کا حوالہ بیان غیر مناسب نہ ہو گا۔ یہ کتاب کروڑوں کی تعداد میں شائع ہوتی ہے اور مصنف نے علماء حضرات کو نظریاتی سجتوں میں گم ہونے سے بچانے کے لئے اس میں سے وہ تمام بحثیں خارج کر دی ہیں، جن کا برصغیر یا کستان و بھارت سے کوئی تعلق نہیں۔ عشر کا مسئلہ انہوں نے ایک چوتھائی سطر میں حل کر دیا ہے کہ چونکہ برصغیر میں کوئی عشری زمین نہیں اس لئے عشر کے مسائل بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور آخر میں فقہ کی سب سے بڑی کتاب فتاویٰ عالمگیری کا ایک حوالہ ملاحظہ ہو جس کے مطابق اگر کسی مسلمان علمائے پر دشمن کچھ عرضے کے لئے غالب آجائے اور مسلمان اسے پھر دوبارہ شامل کر دیں تو اس کی اراضی اپنی اصل یعنی خراجمی حیثیت کی طرف لوٹ آئیں گی (جلد سوم اردو ایڈیشن ص ۲۲) مطبوعہ شیخ غلام علی لاہور) امید ہے علماء حضرات فقہ کی کتابوں میں اس مسئلہ کا مطالعہ فرماؤ کہ اس کی صحیح اسلامی حیثیت عوام کے سامنے آئی گے۔

خدا آں ملتے را سہ دری داد !
کہ تقدیر ارشش بدستِ خوشیش بتوشت
بِ آں قے سرد کارے ن دارد
کہ دہتانش برائے دیگران کشت

پن:

جس کھیت سے دہتان کو میسر نہ ہو روزی
اُس کھیت کے ہر خوشش مگذم کو جس لادو

خواجہ از خون رگ مزدور ساز دلعل ناب
از جفا نے دہ خدا یاں کشت و ہتھاں خراب
انقلاب !

انقلاب — اے — انقلاب !
(اقبال)

دعوت رجوع الی القرآن کی اساسی دستاویز

مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق

خود پڑھیے اور دوستوں اور عزیزوں کو تخفیہ پیش کیجئے

ل甫

اس کتاب پر کا انگریزی، عربی، فارسی اور سندھی زبان میں بھی ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے حقوق اشاعت نڈاکٹر صاحب کے حقوق میں محفوظ ہیں۔ نگران کے

شائع کردہ

مکتبہ مرکزی الحب بن خدم القرآن، لاہور